گفتارِ بلوچاں

مُرتّبہ

میاں شیر محمدؐ کامیانہ

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحن معشر الانبیا نکلم الناس علیٰ قدر عقولہم

گفتارِ بلوچاں و تعارف


ضیاء الرحمٰن

علاقۂ غیر مشمولہ ڈیرہ غازیخاں

مرتبہ: میاں شیر محمد کمیانہ پولیٹیکل تحصیلدار

مجریہ: سید انصار حسین شمسی پولیٹیکل اسسٹنٹ

ڈیرہ غازی خان



ناشر : میاں فیض الرحمان کامیانہ
فرید ٹاؤن، ساہیوال

مطبع :

باراوّل جون ۱۹۷۸ء

قیمت -/۴۰

اول سوراں وسی پاکین خدا را
محمد مصطفےٰ شاہِ پنج تن را
سخی سَرور احمد سلطَان یارا
شہیدانی نام گرے غیں حقیں مارا
تھئی سمندر بے بہائیں نئیں کنارا
جَہاں چھے الکھاں کھے سلام پارا

(زبانِ زدِ عام)

اِنتساب :-

مَیں اپنی اِس حقیر سعی کو بگرامی قدر جناب

غلام مرتضیٰ صاحب پراچہ کمشنر قسمت ملتان

اَور بعالی خدمت چوہدری محمد جلیل خان صاحب

ڈپٹی کمشنر، ڈیرہ غازیخاں منسوب کرتا ہوں،

شیر محمد کمیانہ

پیش لفظ

میری تعیناتی بطور پولٹیکل تحصیلدار ضلع ڈیرہ غازی خاں میں ہوئی۔ جہاں صرف بلوچ قبائل سے واسطہ ہے مگر میں ان کی زبان اور وہ میری زبان سے نابلد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا مفہوم براہِ راست نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ میں نے ان کی گفتگو کو لکھ کر یاد کرنے کا تہیہ کیا۔ میری یادداشت ہی زیرِ نظر کتابچہ ہے۔ اسے طبع کروا دیا گیا ہے تاکہ میرے جیسے دیگر افراد بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔

آج کل اس علاقہ میں ہزاروں افراد طرح طرح کی معدنیات کی برآمد کے لیئے کام کر رہے ہیں۔ مدرسین کا تقرر اس علاقہ میں ہو جاتا ہے مگر وہ زبان سے واقف نہیں ہوتے اور خاص طور پر ڈاکٹروں کو تو اَن پڑھ مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کتابچہ کی مدد سے وہ انشاء اللہ اپنی بات عوام کو سمجھانے اور ان کی زبان سمجھنے کے اہل ہو سکیں گے۔ سیاحوں، تاجروں بلکہ خود یہاں کے بلوچوں کے لیئے بھی بہت مفید ثابت ہوگا۔

مجھے احساس ہے کہ زبان پر لکھی گئی کتاب کو ادیبانہ ہونا چاہیئے۔ مگر جن افراد سے میں نے یہ علم سیکھا ہے وہ خود سادہ اور اَن پڑھ تھے جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مِن و عن پیش کر

دیئے گئے ہیں۔ ان میں اگر مَیں خود اصلاح کرتا تو بوجہ مبتدی ہونے کے کام بگاڑ بیٹھتا۔ مَیں امید کرتا ہوں کہ قارئین نہ صرف میری خطا وسہو سے درگذر فرمائیں گے بلکہ اس کی اِصلاح کر کے مجھے اِطلاع بھی بخشیں گے۔

۱۴۲ر ای فرید ٹاؤن ساہیوال
مارچ ۱۹۷۸ء

شیر محمد کمیانہ
(پولیٹیکل تحصیلدار)

ترتیب

۵ حصۂ نظم

۶ تعارف

ذخیرۂ الفاظ

اوقات

صبح	بانگاہ
شام	بے گاہ
دِن	رُوش
رات	شَف
ابھی	نی
گھنٹہ	گھنٹہ
مِنٹ	منٹ
سیکنڈ	سیکنڈ
آدھی رات	نیم شف
دوپہر	نیرموش
آج کا دن	مروشغیں روش
کل (گذشتہ)	زی گُستغیں
کل (آئندہ)	آذخیں بانگاہ
پرسوں (گذشتہ)	تھی روش گستغین
پرسوں (آئندہ)	تھی روش آذخیں
ہفتہ	گُڈبا
مہینہ	ماہ
سال	سال
صدی	صدی
زمانہ	زمانہ

ہفتے کے دن

ہفتہ	گُڈبا
اتوار	یک شنبہ
سوموار	دوشنبہ
منگل	سہ شنبہ
بدھ	چہار شنبہ
جمعرات	پنجشنبہ
جمعہ	جمعہ

مہینوں کے نام

چیت	چیتر
بیساکھ	ویساکھ
جیٹھ	جیٹھ
اساڑھ	آہڑ
ساون	ساون

بھادوں	بدرو
اسوج	اُسوں
کاتک	کَتیں
مگھر	مَنگھر
پوہ	پوہ
ماگھ	مہا
پھاگن	پھَگن

سمتیں اور جہتیں

مشرق	جہلا
مغرب	بُڑزہ
شمال	اُدبھا
جنوب	لمّاں
آگے	دِلواں
پیچھے	پُشتہ
دائیں	راست
بائیں	چَپ
اوپر	چھکہ۔ کھرغا
نیچے	بنہا
اِدھر	اِنگو
اُدھر	آگو

موسم

گرمی	گرم۔ انُہالا
سردی	گوآہر۔ سیالا
برسات	حوریں
بہار	بہار
خزاں	پَت چھڑ
خشکی	خشک آف
تری	محققیں
بارش	حَور
گرم ہوا	گرم گواث
نرم ہوا	وشیں گواث
آندھی	ڈھانڈو۔ لہوُڑ
ہَوا مشرق	جَہالی گواث
ہوا مغرب	گرَی

ہوا جنوب	ڈکھن
ہوا شمال	اندھاری
بگولا	بالوچھپنڑی
پالا	پھالو
شبنم	تَرِیڑ
برف	بُوَر
کُہر	دیسلو
لُو	لِوَار

کھانے پینے کے متعلقات

کھانا	دَھڑد
ناشتہ	آف جھل
دوپہر کا کھانا	نیرموش سوارغ
رات کا کھانا	شف سوادرغ
طعام شادی	رسیر سوارغ
طعام دعوت	دل لوُغیں سوادغ
طعام ولادت	ششغان
طعام عقیقہ	عیقًا
طعام سوگ	جھوالسری

مہمانی	مھوانی
روٹی	نغن
روٹی کا حصہ	زنُب
پینے کا پانی	درغ آف
آٹا	آرٹھ
گوشت	گوژدھ
بسکٹ	بسکٹ
کیک	کیک
باسی روٹی	پرُوتاییں نغن
خمیری روٹی	پھنڈشغیں نغن
تنوری روٹی	تنور نغن
ڈبل روٹی	مزیں نغن
یخنی	آورژنک
قورما	گورستغیں گوژدھ
شوربا	آورژنک
اچار	اچَار
چٹنی	چٹنی
کباب	کباب
نمکین پلاؤ	دہازوغیں چاول

میٹھے چاول	ڈشیں چاول	تمباکو	تواخو
ابلے ہوئے چاول	بڑکشغیں چاول	سویّاں	سویّاں
کھچڑی	کھچڑی	میدہ	ہڑتھیں آرٹھ
چنے کا پلاؤ	چھنڑاں نی پلاہ	کھٹا	کھٹا
دودھ	شیر	نمک	وہنر
دہی	ڈہی	مرچ	مڑچن
گھی	روغن	ہلدی	ہلدر
پنیر	پنیر	پان	پان
پراٹھہ	پراٹھہ	لونگ	لونگ
شکر	شکر	الائچی	لائچی
مصری	نصری	دسترخوان	کنڈوری
مربّہ	مربّہ	سگریٹ	سگرٹ
چائے	چاہ	ستّو	ستّو
قہوہ	قہوہ	ترش	کھٹّا
تلا ہوا انڈہ	گرستغیں آلو	بے مزہ	پھکّا
ابلا ہوا انڈہ	بڑکشغیں آلو	شہد	بینغ
روغن زیتون	گری روغن	مکھن	نیورغ
برف	بوتّر	لسّی	آگھڑ۔ چھنڑ
حقّہ	حقّہ	سالن	لوڑ

پیاز	پھواز
مصالحہ	مصالحہ
لہسن	تھوم
دارچینی	وحشیں دار
ہینگ	ہنگ
دھنیا	دھنڑیا
سنڈھ	سنڈھ
زیرا	جیرا
تیل	تیل

شلغم	کھوکھنو
مولی	مولی
گوبھی	گوبھی
کھیرا	کھیرا
شکرقندی	شکرقندی
حلوہ کدو	کدو حلوا
میتھی	میتھرا
بینگن	وتاؤں
ٹینڈہ	ہیہل

غلّے اور سبزیاں

چنا	چھنڑاں
گندم	گندیو
چاول	برنجھ
مکئی	مکئی
آلو	آلو
کریلا	کریلا
اروی	اروی
کدو	کدو

پھل اور میوے

تربوز	ہندوانہ
خربوزہ	پکری ٹھنڈو
سیب	سے
آم	انب
انار	انار
انگور	انگور
سنگترہ	سنگترہ
شہتوت	توت

آڑو	شفتالو
کھجور	پِنڈ
کیلا	کیلا
ناریل	گری
فالسا	فالسا
امرود	امرود
کشمش	داکھ
پستہ	پِستہ
گاجر	گاجر
گنّا	گنّا

پودے اور درخت

زیتون	ہس
ببول	چھغڑو
برگد	بوہڑ
شہتوت	تُوت
بیری	باغ
کھجور	کھجّی
انجیر	ہنجیر

ناریل	گری
کپاس	کھرپاس
پتّا	پتّر
ٹہنی	لہٹر
تنا	بھنڈھ
جڑ	بھنڈھ (پاڑ)
کانٹا	کِعٹغ
ڈالی	ڈالی
چٹائیاں بنانے کی گھاس	پِھیش

زمین و آسمان کے متعلقات

افق	افق
آسمان	آزمان
خلا	خلا
چاند	ماہ
چاندنی	مائِنخان
ہلال	پھیشی نوخ
بدر	چاڑوہی ماہ
سورج	روش

روشنی	روژنائی	طغیانی	چھل
کرن	لائٹ	جوھڑ	ترائی
ہوا	گواث	گڑھا	کھڈ
دھوپ	چیکا	وادی	لیہڑ (تھل)
نکلنا	درکھفغ	غارت	غارت
ڈوبنا	ڈُبغ	ٹیلا	ٹپّہ
بادل	جُبڑ	ساحل	سمندرکندھی
گرج چمک	گروندوگروخ	آبشار	آف رشغ
کڑکنے والی بجلی	کڑکوخیں گروخ	اندھیرا	تھہارما
اولے	ترونگل	مٹی	ربتخ
بجلی	گروخ	تخ	سارٹت
دھواں	دھواں	اوس	تریڑ
گھٹا	شاہیں جُبڑ	بھنور	چکر
سمندر	سمندر	گھاٹ	گھاٹ
دریا	دریا	خلیج	خلیج
پہاڑ	پھواد	شعلہ	شعلہ
چشمہ	ٹھوبو	راکھ	پُھر
موج	موج	کوئلہ	لہنگر
زلزلہ	زمی چھنڈ	آتش فشاں پہاڑ	گریں پھواد

آب وہوا	آف وگواس
چٹان	شانک
جنگل	جنگل
میدان	ڈگر
کیچڑ	چکڑ
ستارا	استار

رنگ

سُرخ	سُہر
سَبز	سَتوز
سَفید	سفیت
سیاہ	سشاہ
زرد	زرڈ
نِیلا	نیلغ
بھورا	بھورا
گلابی	سُرجھال
بنفشی	پرجھال
سیاہی مائل	شاہ جھال
مٹیالا	زرڈجھال
قرمزی	قرم ڈولیں
اَرغوانی	ارغوانی ڈولیں
گندمی	زرڈیں
ہلکا	پھکائیں
گہرا	گھاٹا
بہت سیاہ	بعض شاہیں
دَھاری دار	لیکا والائیں

جِسم کے حصّے

سَر	سغر
پیشانی	مَتھا
ابرو	مشاش
آنکھ	چھَم
ناک	پھَونز
کان	گوش
رخسار	دیم
ہونٹ	رکھ
دانت	دتھان
مُنہ	دَف

گلا	گٹھ	سِینہ	سینغ
چہرہ	دیم	معدہ	معدہ
داڑھی	رِیش	آنتیں	روش
مونچھ	بُروت	دل	دل
ٹھوڑی	کھاڈی	جِگر	جِغر
گردن	گردن	پیٹ	لاف
گُدی	مُنزگھ	ناف	نافغ
بغل	بغل	تِلی	جِغر نیں پھَس
کندھا	کھُوفغ	پھیپھڑا	پھیپھڑ
بازو	باسُکھ	گُردہ	گُٹغ
کہنی	سروش	پیٹھ	پُشت
ہاتھ	دست	ران	سَتقل
کلائی	نلی	گھٹنا	کھونڈ
ہتھیلی	تَلی	پِنڈلی	ٹھانگ
انگلی	مڑدان	ایڑی	کھُڑی
انگوٹھا	الوٹھا	تلوا	پھاز تلی
ناخن	ناخن	ٹانگ	پھاز
مُٹھی	مُشت	پاؤں	پچاز
نبض	ناڑی	ٹخنہ	گِٹا

بال	پُھٹ

متعلقاتِ جسمِ انسانی

میل	لِڈ
پیپ	رِیئو
خون	ہون
آنسو	اَنڑس
بلغم	خاکار
صفرا	زڑدوئی
سودا	اُڑ
تھوک	تھُک
پیشاب	مِس
پاخانہ	گِیس
پسینہ	ہینر
لُعاب	ٹھُک
سانس	ساہ
آواز	ٹھوک
گفتگو	گالوار
چِیخ	پھرات

چِھینک	چِھشغ
جمائی	گواسغ
خوبصورتی	سُھنڑائیں
بدصورتی	کھوجائیں
کمزور	لاغر۔ بے سیخ
دبلاپن	لاغریں
موٹاپن	لاندیں
شکل	شکل
جھُریاں	ڈِیم وَل
رنگت	رنگ
نیند	وہاد
خواب	وہادگندغ
بیداری	ہاغا
خراٹے	گھرکھغ
غنودگی	وُبڈِغ
کراہنا	ہونگارغ
سُن ہوجانا	وہاشوغ
انگڑائی لینا	آکرڑ
آہ بھرنا	سارھتیں شونکار

اسم بات چیت	ضروریں گالوار
اونگھنا	وہاد لوڈا

حواسِ خمسہ

دیکھنا	گندغ
سننا	نفوشنغ
سونگھنا	بوکھنغ
چکھنا	چکھنغ
چھونا	دست لاغ
	(پھرگنغ)

رشتے

ماں	ماس
باپ	پھس
بہن	گُہار
بھائی	براس
ماموں	ماما
ممانی	مامی
چچا	چاچا
چچی	چاچی
خالہ	ماسی
خالو	ماسڑ
پھُوپھا	پھُپھڑ
پھُوپھی	پھُپھو
دادا	ڈاڈا
دادی	ڈاڈی
نانا	نانا
نانی	نانی
ساس	وسیغ
سُسر	وسرِک
بہو	نِشار
داماد	زانواس
بھتیجا	برازخت
بھتیجی	برازخت
بھانجا۔ بھانجی	گوہارزخت
پوتا۔ پوتی	چھُغزاخت
نواسا۔ نواسی	چھُغزاخت
منگیتر	منگیندا

کنوارا۔ کنواری	کنوارا۔ کنواری
شادی شدہ	سیر ښغیں
رانڈ	رَن
عورت	زال
سہاگن	لوزخ سیر
ماموں زاد	ترہ یذاٹِک
چچا زاد	ناخوزاٹِک
خاوند	مڑد
بیوی	زال
سسرال	پِھیکو
آباؤ اجداد	پِھس ڈاڈا
بہنوئی	گوہار مڑد
سالا	زال براس
نوجوان	وَرنہ
بوڑھا	پِھیر
ادھیڑ عمر	نیں پھیر
نابالغ	اُبلو

مکان اور متعلقات

دروازہ	واڑدف
پھاٹک	پھاٹک
مکان	مکان
گزرگاہ	راہ
استقبالیہ کمرہ	میمانی ہند
پڑھنے کا کمرہ	پڑھغ کوٹھو
کھانا کھانے کا کمرہ	وَرغ ہند
سونے کا کمرہ	ووسغ ہند
باوَرچی خانہ	لغن پھشغ ہند
صِحن	لوغ دیم
بالاخانہ	ماڑی
ہال	مزیں کوٹھو
برآمدہ	برانڈہ
کوٹھڑی	کوٹھڑی
کِھڑکی	دری
باغیچہ	ورژدان
جھونپڑی	جھُگی
بڑی جھونپڑی	جُب
خیمہ	تورا۔ تنبو

چھپر	منہان
تالا	جندرا
کُنجی	کنجی
کُنڈی	کونڈھا
رضائی	لیف
صندوق	صندوق
چارپائی	کھٹڑا
جھاڑو	بوہاری
طشتری	تھالی
کُنالی	پِھبل
توا	توا
گھڑا	گھڑا
گلاس	کدھا
مشکیزہ	مشک
تھوبی	تھافغ

مختلف بیماریاں

نزلہ	نزلہ
سَردرد	سغردڑد
پیٹ کا درد	لاف . دڑد
آنکھ کا درد	چھم وڑد
قبض	لاف بند
ہیضہ	ہیضہ
سَرچکرانا	سغرچھرغ
قے	اچھالغ
دل دھڑکنا	دل لڑزغ
بخار	تھف
مِرگی	بوڈرغ
یرقان	زڑدائی
پٹھوں کا درد	سقلانی وڑد
خارش	کِھیغ
بواسیر	بواسیر
تپ دق	دق
سوزاک	سوزاک
چیچک	گردیک
سوجن	جان شیغ
ڈسنا	ڈنگن
جلن. سوزش	جان کِھیغ

زخم	پھَٹ
پھوڑا	موہل
اندھاپن	کھور
ہچکی	ہڈکی
کھانسی	کُھلغ

ادویات

پھٹکڑی	پھٹکڑی
ہلیلہ	ہرڑیہ
شیرہ	شیرغ
مسہل	جلاب
نشاستہ	نوشاتر
شراب	شراب
شربت	شربت
لیموں	نبوّل
اسبغول	اسبگول

صفات و جذبات

پاک دامنی	نیک
سادگی	سادہ
سچائی	راست
نرمی	جوانھے
صفائی قلب	صاف دِل
پابندیٔ وقت	وخت پابند
تیزیٔ عقل	شہرال
بھلائی	جوانھے کھنغ
پرہیزگاری	پارسا
خوبی	جوانھے
ہمدردی	دل لوٹکا
غم خواری	مونجھا
دیانت داری	ایمان دار
محنتی	کارکھنوخ
پاکیزگی	سھترائیں
آسودگی	سَوکھا
نکھر جانا	اڈگرغ (ٹکرتھا)
بدکاری	بدیں کار
کُند ذہنی	کھور دماغ
فریب دہی	دھوکہ دیغ

غرور	وِڈھائی
فضول خرچی	فضول خرچ
چوری	دُزی
گناہ	گناہ
خود صفائی	وئی تعرایف کھنوغ
عداوت	دشمنی
سُستی	سُستی
بے اعتمادی	بے اعتباری
تنگ دل	کوہ دل
ترش روئی	زہرن
بے شرمی	بے حیائی
غصہ	ساڑ
کمینگی	کِھینہ (کمینہ)
نفرت	خار کھنغ
بزدلی	لغور
بے انصافی	ظلم
بددیانتی	بے ایمانی
کنجوسی	جُفیل
بدکار	گندیں کار

بد چلن	گندیں کار کھنوخ
پاگل	گنوخ
زنا	کالا
رسہ گیری	بھونگا
مخبری	سوجھی
پیٹنا	مضروبی

لباس اور متعلقات

شِملہ	تھُرا
تاج	تاج
پگڑی	پھڈکا
کالر	کالر
کوٹ	کوٹ
ترکی ٹوپی	ترکی ٹوپی
برقعہ	برقعہ
گاؤن	گاؤن
اچکن	اچکن
واسکٹ	واسکٹ
پوستین	پوستین

چغہ	دراڑیں کوٹ	لحاف	لیف
چادر	پھشتیغ	جائے نماز	مصلےٰ
پتلون	پتلون	جیب	کھیسغ
رومال	رومال	جوتا	چھبو
تہبند	لانگ	سلیپر	سلیپر
سوٹ	کل جَر	رومی بوٹ	رومی چھبو
اوڑھنی	کجوخ	تسمے	بندوخ
جراب	مستی	برش	چھبو صاف کنوخ
تکیہ	سَرہانہ	فِیتہ	پیتہ
بچھونا	نشتیجن	کپڑا	جَر
گریبان	گٹ جڑ	پاجامہ	شلوار
آزارَبند	ذرابند	لٹھا	لٹھا
دوشالہ	سریغ	ململ	ململ
قمیض	کُرتی	چھینٹ	چھینٹ
مفلر	گلوبند	مَخمل	مخمل
دوپٹہ	سریغ	کمخواب	کمخواب
تولیہ	تولیہ	فلالین	فلالین
نکٹائی	ٹائی	ریشم	پھَٹ
آستین	آستیغ	کشمیرا	کشمیرا

ٹاٹ	نشیتبن
بانات	بانات
ٹول	ٹول
اون	پشم
خاصہ	خاصہ
سوئی	شیشن
دھاگا	بندتخ
تلہ دانی	تلہ دانی
قینچی	مقراض
بٹن	تکمہ. گروٹ
دھاگے کی نلکی	بندتخ راڈ
سِلائی مشین	جُردوشیں مشین
درزی	درزی
ٹانکا	ٹانکا
نلی	نلی
تکلا	تھکلا
تھان	تان

زیور و زینت

کنگن	بریدغ
آرسی	تادیت
انگوٹھی	مندری
پازیب	لچھہ
ہار	ہار
چوڑی	چوڑی
نتھنی	رکسی
سرمہ	سریمغ
سلائی	شیقغ
داتن	ڈنڈوا.ن
کنگھا	سرند
صابن	صاوین
مہندی	مہنی
گھڑی	گھڑی
عینک	عینک
چھتزی	چھتری
چھڑی	لٹھ
پنکھا	پکھا
استرا	استرغ

اہلِ حرفہ لوگ

تھیلی	گتھلی	تھوک فروش	تھوخ شوشکوخ
		گوشت ″	گوشند ″ ″
		سبزی ″	سبزی ″ ″
دھوبی	دھوبی	میوہ ″	میوہ ″ ″
نائی	نائی	ایندھن فروش	ہنگر ″ ″
موچی	موچی	شیر ″	شیر ″ ″
تیلی	چاکی	ایڈیٹر	ایڈیٹر
بھنگی	بھنگی	بیرسٹر	بیرسٹر
بڑھئی	درکھان	مؤرخ	تاریخ لکھوغ
لوہار	لوہار	مصنّف	مصنّف
معمار	مستری	انجینئر	انجینئر
طبیب	طویو	سوداگر	سوداگر
عطار	عطر شوشکوخ	فوٹوگرافر	تصویر کھشوخ
دندان ساز	دتن بندوخ	چوکیدار	چوکیدار
جراح	جراح	خانساماں	خانساما
ڈاکٹر	ڈاکدار	جولاہا	جرگوف
دوا فروش	دوا شوشکوخ	سنار	سنارا
کتب فروش	کتاب شوشکوخ	کوچوان	گوچوان
پرچون فروش	سودا شوشکوخ	ملاح	کشتی چلائیوخ

گورکن	گورکھٹ
گداگر	فقیر
کمہار	کمبھار
نجومی	نجومی
پنساری	پساری
خاکروب	بوہاری دار
کسان	راہک
غوطہ زن	ٹُبیّ جبوزخ
تیراک	تروخ
مزدور	مزدور
حلوائی	حلوائی
گھڑی ساز	گھڑی ٹھائیوزخ
جلد ساز	جلد ٹھائیوزخ
شکاری	شکاری
دایہ	بٹھارا
مالی	مالی
رنگریز	چھینبا

کھیل و تفریح

کھیل	رُیو
کھلاڑی	کھڈاڑی
کرکٹ	کرکٹ
فٹ بال	فٹ بال
بانسری	بائیسری
سارنگی	سُرینڈا
گھنگرو	گھنگرو
مچھلی کا شکار	ماہیغ شکار
شہسواری	زواریغ
پرندوں کا شکار	مرگانی شکار
جوا	شرٹھ
نِشانہ بازی	نِشانہ چیخ

زرعی آلات

ہل	ہل
جُوا	جولا
پھالہ	پھال
بیلن	گاٹا
نہن	ودھر

کراہ	کھین
بند	لٹھ
بیج	زیج
فصل کاٹنا	ملک یرغ۔ رون
کھلیان	پڑ
ترنگلی	ترانگل
کراہی	کرائی
چھاج	چھج
دَندال	ڈنڈال
سہاگہ	ماہلہ
بونا	کھشیغ
کاٹنا	برُغ
اٹھانا	زِیرغ
کُھرپا	کھربا
کلہاڑی	تھفر
کلہاڑا	کوہاڑا
دہولہ	دہولہ
کَستی	کہی
دَرانتی	واس

چوپائے و جانور

بکری	بُز
بھیڑ	میش
بکری کا بچہ مادہ	شِنکھ
بکری کا بچہ نر	پھُوہٹر
بھیڑ کا نر بچہ	گھٹور
بھیڑ کا مادہ بچہ	گورکھ
پالتو دِنبہ	سانبھوا
پالتو بکری	پھاشن
سانڈ مینڈھا	گرانڈ
" بکرا	پھاشِن
گائے	گوخ
بچھڑا	روڑ
جوان بچھڑا	وچھِیر
نر	نر
مادہ	بازغلین
بیل	کھائر
بھینس	میہی

اونٹ	لیڑو
اونٹنی	ڈاچی
کتا	رکھشک۔ بنہگ
کتیا	ہڈی
خچر	کھچر
شکاری کتا	شکاری بنیگ
گدھا	خر۔ کھر
گھوڑا	مادن
گھوڑی	مادیان
شیر	شیر
چیتا	ڈیہو
ریچھ	رِچھ
گیدڑ	تھولغ
بجّو	گورپٹ
لنگور	لنگور
مگرمچھ	گنڈو
چوہا	مُشک
چوہیا	مُشک
نیولا	نول

گلہری	گاہلڑ
سُور	سوئَر
بِلی	بلی
بِلا	جھربلا
ہرن	ہرن
ہرنی	ہرنی
خرگوش	کھرگشک
بندر	بھولو
بندریا	بھولنی
گرگٹ	گورکھش

جانوروں کے متعلق

ریوڑ	میہڑ
مویشی	مال
گلہ	ٹلہ۔ میہڑ
گوبر	گوہا
کھاد	کھاد۔ پاہ
مینگن	پھدو
دُم	دُنب

سینگ	سرح
کھُر	سرنب
دانت	دتھان
سونڈھ	سونڈھ
پَر	پھَر
بازو	بازک
چونچ	چُھب
گھونسلہ	کھدلہ
پنجہ	چنبو
مرغ کی کلغی	مرگ دہاتھاز

پرندے

چڑیا	چینک
کبوتر	کونتر
کوّا	گرُاغ
فاختہ	گیرا
طوطا	طوطا
بٹیر	بٹیرا
بلبل	بلبل
باز	بانز
گدِھ	گرگز
چمگادڑ	گوشتو
الوّ	الوّ
عقاب	بانز
شاہین	شِکرا
مرغی	کُکڑ
بطخ	بدرخ
ہدہد	دراکھاڑ دگ
چِیل	گج
ابابیل	چوسری
چکور	کھوگ
تِیتر	تِیتر
بھوتیتر (کشمیرا)	کھٹنگر

پانی کے جانور

مچھلی	ماہیغ
کچھوا	کچھو
مینڈک	ڈیڈر

کیکڑا	کیکڑا
سیپی	سیپی
گھونگھے	گھونگھے

کیڑے مکوڑے

سانپ	سیاہمار
بچھو	زیتو
اژدہا	مزیں سیاہمار
چھپکلی	کرلی
پسو	کالڑا
کھٹمل	کھٹمل
مچھر	پھُری
مکھی	مِسک
چیونٹی	موژ
بھڑ	گومز
جُوں	بوڑھ
ٹڈی	مکڑی
شہد کی مکھی	بینغ مِسک

پڑھائی لکھائی کے متعلق

کتاب	کتاب
کاپی	کاپی
پنسل	پنسل
سلیٹ	سلیٹ
نب	نب
چاک	چاک
قلم تراش	قلم گھڑوخ
تختی	تختی
سیاہی	مَس
کاغذ	کاذغ
ہولڈر	ہولڈر
قلم	قلم

تجارت کے متعلق

خرید	گرےغ
فروخت	شوشگغ
خرید وفروخت	گردخ دیوخ

خریدار	گروخ
بیچنے والا	شوشکوخ
نیلام	نیلانب
بولی دہندہ	بولی دیوخ
دلال	دلال
بھاؤ کا گھٹنا	ارزاں بیغ
″ ″ بڑھنا	بہائے گراں بیغ
نرخ	نرخ
گاہک	گردخ
بڑھنا	دَدھغ
برآمد	کِھشغ
درآمد	دراتھے آرغ
نمونہ	دَنکی
فہرست	فہرست
پتہ	پتہ
دلیوالہ	ڈلیوالہ
روانگی	رودغ

دھاتیں

سونا	سونا
چاندی	چاندی
تانبا	ٹرامبہ
پیتل	پِتل
لوہا	لوہا
سیسہ	سکہ
ٹین	ٹین
کانسی	کُوٹ
جست	جست
پارہ	پارہ
ہیرا	ہیرا
موتی	موتی

آلات واوزار

آرا	کلوتر۔ فرنائی
برما	برما
ریتی	سوہان

چھرا	کھاڑچھ
گرز	گرز
سوئی	شیشن
استرا	استرغ
پرکار	پرکار
نشتر	نشتر
کیل	میخ
سُوا	سوا
ہتھوڑا	ہتھوڑا
قبضہ	قبضہ
آہرن	سندران
رندا	رندا
ترازو	ترگڑی
کانٹا	گُنڈی
استری	استری
قینچی	مقراض
تیر	ہِتیر
تلوار	زَہو
بندوق	توفک
پستول	پستول

جنگ و امن کے متعلق

صلح	ٹھاہی
جنگ	بھڑانڈ
دشمن	دژمن
شکست کھانا	بفابیع
فوج	اُڑدو
لشکر	اُڑدو
پیادہ	پیادیغ
رسالہ سوار	گھوڑو
وردی	وردی
فوجی خدمت	اڑدو چیٹھ
بارک	بیرک
چھاؤنی	چھاؤنی
چوکیدار	چوکیدار
افسر	داروغ
جرنل	جرنیل
کرنل	کرنیل

سپاہی	سپاہی
توپ خانہ	توپ خانہ
رضاکار	رضاکار
پولیس	پُلیس
قطار	چِھر
پریڈ	پریٹ
عارضی صلح	کچوئیں ہیر
حملہ	ڈنگ رشغ
پلٹن	اڑد
تنخواہ	گرنج
سپاہ سالار	مسترو
وزیر جنگ	بھڑانڈ وزیر
بارود	برود
اسلحہ خانہ	اتھیارائی ہند
بم	بُنب
جنگی جہاز	مڑدخیں جہاز
گولی	گولی . گذار
کارتوس	گولی
دونالی بندوق	دونلی تونک

ریوالور	ششش نلی پستول
ڈھال	اپر
توپ	توپ
نیزہ	نیزغ
لاٹھی	لکڑ . لٹھ
ہوائی جہاز	اڈرخیں جہاز
برِجلوٹ	برجلوٹ

حکومت و ریاست

مُلک	ملک
سلطنت	بادشاہی
شخصی حکومت	وسی دستی حکوم.
صَدر	واجھہ
بادشاہ	بادشاہ
ملکہ	ملکہ
شہزادہ	شاہ بچھ
وزیرِ اعظم	مزیں وزیر
وزیر خارجہ	دری وزیر
وزیر داخلہ	اندری وزیر

وزیرِ تعلیم	علم وزیر
وزیر انصاف	انصاف وزیر
وزیر مال	مال وزیر
وزیرِ امورِ عامہ	عامیں وزیر
گورنر	لاٹ
گورنری	لاٹ ڈیہہ
گورنمنٹ	شہی
صوبہ	صوبہ
شاہی محل	شاہی محل
دفتر	دفتر
کچہری	کچہری
کمشنر	کمشنر
سفیر	سفیر
مترجم	ڈسوخ
سیکرٹری	سکرٹری
پرائیویٹ سیکرٹری	وسی سکرٹری
پولیٹیکل ایجنٹ	پولٹیکل اجنڈ
سیشن کورٹ	شیشن
ہائی کورٹ	ہائی کورٹ

دیوانی عدالت	دوانی عدالت
فوجداری عدالت	فوجداری عدالت
سٹی مجسٹریٹ	سٹی مجسٹریٹ
کوتوال	کوٹوال
جج	جج
سمن	سمن
مجرم	ڈوہ دار
جرم	ڈوہ
پھانسی گھر	پھانسی ہنڈ
سازش	سازش
تحقیقات	پھولغ
ہرجانہ	چٹی
رشوت	وڈھی
اپیل	اپیل
فتنہ	فتنہ

پیمانے

گز	گز ۔ والا
ایک ہاتھ	ہرش

بالشت	گِٹھ
میل	میل
فرلانگ	فرسنگ
اونس	اونس
ٹن	ٹن
فٹ	فٹ
ایکڑ	ایکڑ
بلندی	کھڑدرغ
گہرائی	چِھک
لمبائی	دراز اِل
چوڑائی	گنڈال
موٹائی	ڈال۔ گڑولغ
وسعت	رِیغ

گِنتی

ایک	یک
دو	دو
تین	سہ
حار	چہار
پانچ	پھنج
چھ	شش
سات	ہفت
آٹھ	ہشت
نو	نوہ
دس	دہ
گیارہ	یازدہ
بارہ	دوازدہ
تیرہ	سیزدہ
چودہ	چہاردہ
پندرہ	پانزدہ
سولہ	شانزدہ
سترہ	ہفدہ
اٹھارہ	ہشدہ
انیس	نوزدہ
بیس	گیست
اکیس	گیست ویک
بائیس	” ودو
تئیس	” وسہ

چوبیس	گیست وچہار	اکسٹھ	سہ گیست یک
پچیس	″ وپنج	باسٹھ	″ ″ دو
چھبیس	″ وشش	ترسیٹھ	″ ″ سہ
ستائیس	″ وہفت	چونسٹھ	″ ″ چہار
اٹھائیس	″ وہشت	پینسٹھ	″ ″ پنج
انتیس	″ ونوہ	چھیاسٹھ	″ ″ شش
تیس	سی	سڑسٹھ	″ ″ ہفت
چالیس	چہل	اڑسٹھ	″ ″ ہشت
پچاس	پنجاہ	انہتر	″ ″ ونوہ
اکاون	چہل ویازدہ	ستر	″ ″ دہ
باون	″ ودوازدہ	اکہتر	″ ″ یازدہ
ترپن	″ وسیزدہ	بہتر	″ ″ دوازدہ
چون	″ وچہاردہ	تہتر	″ ″ سیزدہ
پچپن	″ وپانزدہ	چوہتر	″ ″ چہاردہ
چھپن	″ وشانزدہ	پچہتر	″ ″ پانزدہ
ستاون	″ وہفدہ	چھہتر	″ ″ شانزدہ
اٹھاون	″ وہشدہ	ستتر	″ ″ ہفدہ
انسٹھ	″ ونوزدہ	اٹھہتر	″ ہشدہ
ساٹھ	سہ گیست	اناسی	″ ″ نوزدہ

اسی	چہار گیست
اکیاسی	چہار گیست یک
بیاسی	،، ،، دو
تراسی	،، ،، سہ
چوراسی	،، ،، چہار
پنجاسی	،، ،، پنج
چھیاسی	،، ،، شش
ستاسی	،، ،، ہفت
اٹھاسی	،، ،، ہشت
نواسی	،، ،، نوہ
نوے	،، ،، دہ
اکیانوے	،، ،، یازدہ
بانوے	،، ،، دوازدہ
ترانوے	،، ،، سیزدہ
چورانوے	،، ،، چاردہ
پچانوے	،، ،، پانزدہ
چھیانوے	،، ،، شانزدہ
ستانوے	،، ،، ہفدہ
اٹھانوے	،، ،، ہشدہ

ننانوے	چہار گیست نوزدہ
سو	صد، سز
ہزار	ہزار
لکھ	لکھ
کروڑ	کروڑ
ارب	ارب

اَعداد کسری

آدھا	نیم
ایک تہائی	سیک
چوتھائی	چہارک
پانچواں	پنجک
چھٹا	ششک
ساتواں	ہفتویں
آٹھواں	ہشتویں
نواں	نہوی
دسواں	دہویں
تین چوتھائی	پونا

اَعدادِ صفتی

پہلا	پہیشتی
دوسرا	ذہوی
تیسرا	سہوی
چوتھا	چہاردی
پانچواں	پھنجوی
چھٹا	ششوی
ساتواں	ہفتوی
آٹھواں	ہشتوی
نواں	نہوی
دسواں	دہوی
بیسواں	گیستوی
تیسواں	سیواں
چالیسواں	چہلویں
پچاسواں	چھہل دہوا
سُوواں	سڑواں
ہزارواں	ہزارویں

ملتے جلتے الفاظ

ڈاکخانہ	ڈاکخانہ
تھانہ	تھانڑو
سامان	مڈّی
کنارہ	کندھی
راستہ	راہ
لگام	لغام
کوہان	کوہانڈ
دوشیزہ	نوخیز سیر
خاتون	جُوائیں زال
برف خانہ	بورہند
کوچہ	گگلی
مسافر خانہ	میمان خانہ
فرسٹ کلاس	فراں سیٹ
ڈرائیور	ڈریول

رُوزمَرّه گفتگو

ابتدائی الفاظ

مَیں	ماں
توُ	تھوَ
مجھے	مَنّاں
وہ	آں
اُس	آں
ابھی	نی
کہاں	کھوَ
طرف، تک	پھَلوا
میں	تیانو
پر	چھکا
سے	چھے
جیسے کہ	چھوڈ
چونکہ	مچے
اس لیئے	اے واسطہ
حالانکہ	حالانکہ
ابھی تک	دے تکا
کے علاوہ	چھتیاچھے بغیر

اف، ہائے	وَیٔ
آہا	آہا
ہمیشہ	ہسرو
یہاں	اِیزا
وَہاں	اُوزا
کہاں سے	کھوچھے
آ	بیا
لا	بیار
واقعی	واقعی
کیا	چھے
نہیں	ناہ
سوائے	بغیر
جیساکہ	چھوکہ
خبردار	خبرُدار
یہ لو	اِلیشاگر
دیکھو	گِند
سن	نغوش
بیٹھ	نِند
ہرگز	ہرگز

کدھر	تھانگو	تو نہ آ	میا
جیسا مناسب ہو	ہرگا کہ مناسب بی	تم نہ آؤ	میائیں
جو	ہورے	تو سن	نفوش
چونکہ وہ	ہوبرآں	تم سنو	نفوشیں
چنانچہ	ہماانگا	تو سو جا	ودس
غالباً	مشا	تم سو جاؤ	ودسیں
کم سے کم	کمیں تھر	مَیں جاؤں	بَرواں
جتنی جلدی ہو سکے	تیکھائیغا	ہم جائیں	بروں
ہمیشہ سے زیادہ	پِھشاجھے باز	میں کھاؤں	براں
علاوہ ازیں	الیشیا بغیر	تو اٹھ	کھڑوبی
جتنا ہو سکے	وَسالا	تم اٹھو	کھڑویں
تو آ	بیا	تو بیٹھ	نِند
تم آؤ	بیائیں	تم بیٹھو	نِندیں
تو جا	برو	تو پڑھ	پڑھ
تم جاؤ	بریں	تم پڑھو	پڑھیں
تو کھا	بُرَ	تو لکھ	لِکھ
تم کھاؤ	بُریں	تم لکھو	لِکھیں
تو چل	جُز	تو دیکھ	گِند
تم چلو	جُزیں	تم دیکھو	گِندیں

تو مار	جن
تم مارو	جنیں
تو چور ہے	دُزے
تم چور ہو	دُزیں
تو نماز پڑھ	نواشنا پڑھ
تم نماز پڑھو	نواشنا پڑھیں
تو روزہ رکھ	روشنغا دار
تم روزہ رکھو	روشنغا داریں
تو زکوٰۃ دے	زکاتا دَے
تم زکوٰۃ دو	زکاتا دَیں
میں نے نماز پڑھی	ماں نواشتی پڑھسا
ہم نے نماز پڑھی	مانواس پڑھسا
میں نے روزہ رکھا	ماں روشنغ داشتہ
ہم نے روزہ رکھا	مار وشنغ داشتا
مَیں نے زکوٰۃ دی	مَن زکوٰۃ داسا
ہم نے زکوٰۃ دی	مازکوٰۃ داسا
مَیں جا رہا ہوں	ماں روغاں
ہم جا رہے ہیں	مار وغوں
میں آؤں گا	ماکھاں

ملاقات

السلام علیکم ۔	السلام علیکم ۔
وعلیکم السلام ۔	وعلیکم السلام ۔
آپ کا کیا حال ہے ۔	تھئیں چھے حالیں ۔
مَیں آپکو دیکھ کر بہت خوش ہوا ۔	من تھرا دیسو باز خوش بیسغاں ۔
آئیے تشریف لائیے ۔ شکریہ ۔	بیا اللہ تھرا بیاری ۔ مہروان بھئیں ۔
میرے پاس بیٹھیے ۔	منئیں گرا ندبی ۔
خدا کا شکر ہے	اللہ ہی شکریں ۔
کیا آپ بلوچی میں بات چیت کر سکتے ہیں ۔	تھو بلوچی زوان گالوار زانے ۔
تھوڑی بہت بول سکتا ہوں ۔	باز کھمیں زاناں ۔
آپ کا نام کیا ہے ۔	تھئیں نام کھئیں ۔
میرا نام محمد علی ہے ۔	منئیں نام محمد علی ءِ ۔
آپ کہاں سے آئے ہیں ؟	تھو چھکو چھے آختغے ۔
پنجاب سے آیا ہوں ۔	من چھے پنجاب آختغاں
آپ کہاں جا رہے ہیں ؟	تھو کھو روغے ۔
میں ڈیرہ جا رہا ہوں ۔	من دیرہ روغاں
آپ میرے آنے تک یہاں ٹھہریں ۔	تھو میں آنگھنا ہو یزانند ۔

میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ۔
خدا حافظ
آپ کے لیئے دعا کرتا ہوں ۔
خدا تیری صبح خیریت سے کرے ۔
خدا آپ کی شام خیریت سے کرے ۔
خدا آپ کی شام نیک کرے ۔
تمہارا دن نیک ہو ۔
آپ کا مزاج کیسا ہے ۔
میں نہایت ہی خوش ہوں ۔
آپ کون ہیں ۔
میں بلوچ ہوں ۔
یہ کون ہے ؟
یہ میرا بھائی ہے ۔
یہ میرا دوست ہے ۔
آپ کا آنا مبارک ۔
مہربانی فرمایئے تشریف رکھیئے ۔
آپ کہاں رہتے ہیں ؟
میں سرائے میں رہتا ہوں ۔
آپ کہاں جا رہے ہیں ؟

من اشتو چھے رخصت لوٹھاں ۔
اللہ وڑیں ۔
تھیں واسطا ماں دعا کھناں ۔
اللہ تھیں شف خیرتی روش کھاں ۔
اللہ تھیں روشا خیرتی شف کھاں
تھیں شف اللہ نیک بڑائیں نی ۔
اللہ تھیں روشا نیک بڑائیں نی ۔
تھیں مزاج شوفیں ۔
ماں باز خوشاں ۔
تھو کھئے ۔
ماں بلوچ باں ۔
اُے کھیں ۔
اُے منیں براسیں ۔
اے منیں دوستیں ۔
تھیں آغے مبارک ۔
مہربانیا کھاں نند ۔
شا بجھو نندیں ۔
ماں سرانہا نھلغاں
تھو نی بجھو روغئے ۔

مَیں مسجد جا رہا ہوں۔	ماں مسجد بھلوار وغاں۔
مَیں بازار جا رہا ہوں۔	ماں بازار روغاں
مجھے اکیلا نہ چھوڑیئے۔	مناں ایکھا مَیل۔
میری بات سنیئے۔	منیں گالوار نغوش۔
میرے ساتھ چلیئے۔	گوماں پجبیا جُز۔
آپ کیا چاہتے ہیں؟	تھَو چھے لوٹے۔
او قلی یہاں آؤ۔	او قلی ایزا بیا۔
یہ سامان اٹھالو۔	اے مَڈّی زِیر۔
مَیں راستہ بھول گیا ہوں۔	ماں راہ چھے بُھلشغاں۔
کیا تم اکیلے ہو؟	تھوا ایکھولئے۔
پانی لائیے۔	آف بیار۔
مَیں پیاسا ہوں۔	ماں تھفنیغاں۔
اس کا شکر مجھ پر ضروری ہے۔	آ ہنی منّت منیں چھکا ضروری ئے۔
آپ کا کیا ارادہ ہے؟	تھَیں چھے ارادہ ئیں۔
آپ نے کیا خرید لیا ہے؟	تھَیں چھے گِفتائے۔
مَیں نے کپڑا خریدا۔	ماں جرے گفتاں۔
اس کی کیا قیمت ہے؟	الیتیؔ چھے بھائیں۔
ہوٹل کہاں ہے؟	ہوٹل کجھریں۔
کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟	تھوا ے مرد بھچا کار ئے۔

ہاں میں اسے جانتا ہوں ۔
میری بات سنیئے ۔
آپ خاموش بیٹھیے ۔
بس سٹینڈ کہاں ہے ؟
سخی سرور کتنی دور ہے ؟
موٹر کا کرایہ کتنا ہے ؟
تو نے کہاں دیکھا ؟
کیا تو نے دیکھا ؟
کیا تو نے کھایا ؟
اے بھائی تیرے ہاتھ میں کیا ہے ؟
کیا تو نے گوشت کھایا ہے ؟
ہاں میں نے گوشت کھایا ہے ۔
کیا تم خوش ہو ؟
ہاں میں خوش ہوں ۔
کیا تمہارے پاس گھڑی ہے ؟
ہاں میرے پاس گھڑی ہے ۔

ہَو ماں ایشیٔ پچھا کاراں ۔
مَیں گالوار نغوش ۔
تھُو چھپیغانند ۔
بس ہند بجھریں ۔
سخی سرور چِنخر دیریں ۔
مونٹر کرایہ چِنخریں ۔
تھَو بکھو دلیساۓ ۔
اڑے تھو دلیساء ۔
اڑے تھو وارتھا ۔
او براس تھو دستا چھے ۔
تھَو گوژد وارتھا ۔
ہَو ماں گوژد وارتھا ۔
تھَو خوش ئے ۔
ہَو ماں خوشاں ۔
تھَیں گرا گھڑی استیں ۔
ہَو ماں گرا گھڑی استیں ۔

صحت کے بارے میں

جناب آپ کا کیا حال ہے ؟

بہت اچھا ہے ۔

آپ کی صحت کیسی ہے ؟

حسبِ معمول ۔

خدا کا شکر ہے ۔

اَب اچھا ہوں ۔

کیا آپ کی صحت خراب ہے ؟

مَیں نہایت مغموم ہوں ۔

آپ کی اہلیہ اور بچّوں کا کیا حال ہے ؟

بال بچّے کیسے ہیں ؟

الحمد للہ وہ سب نہایت خوش ہیں ۔

آپ کی ہمشیرہ کا کیا حال ہے ؟

اس کی صحت بگڑی ہوئی ہے ۔

اسے کیا تکلیف ہے ؟

بخار ہے ۔

بہت عرصہ ہوا مَیں نے آپ کے
والد صاحب کو نہیں دیکھا مجھے خوف

خاں تھَیں چھے حالیں ۔

باز ٹھیکاں ۔

تھَیں صحت شونیں ۔

اودا ڈولیں ۔

اللہ شکریں ۔

نی ٹھیکاں ۔

تھَیں صحت وہاریں ۔

ماں باز مُونجھاں ۔

تھَیں زال چھکانی چھے حالیں ۔

چھکاتی چھے حالیں ۔

شکریں کُل ٹھیک ٹھاکاں ۔

تھَیں گہارے چھے حالیں ۔

تھَیں حال وہاریں ۔

ایشیا چھیں ڈُکھے ۔

ایشا تھفیں ۔

بعض روش بیسا کہ ماں تھَیں پھس
نیسا ۔ تاجوڑ تے نیں ؟ ۔

ہے کہ بیمار نہ ہوں۔
واقعی وہ سخت زکام کے باعث بستر
پر بیمار پڑے ہیں۔
مگر اب انہیں بہت آرام ہے۔
آپ کی والدہ کا کیا حال ہے؟
انہیں کھانسی کی سخت شکایت ہے۔
ان کا علاج کون کرتا ہے؟
ایک انگریز ڈاکٹر۔
کیا اب وہ اچھی ہیں؟
ان کی صحت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد
ٹھیک ہو جائیں گی۔

بیشک آں چھے کھلفا باز تا دائیں
بستر اچھکا وفیقیں۔
نی آنہا باز آرا نوبں۔
تھقیں ماسے چھے حالیں۔
آنہیار کھلغ تکلیفیں۔
آنہیا کھے درماں کھتاعنیں۔
یہ انگریز ڈاکدار اے
چھے نی آنہی خیریں۔
آنہی صحت باز دگڑ تھقیں۔
مناں امید کہ آں تھکائیفا ٹھیک
بی۔

لباس کے بارے میں

وہ تمہاری پگڑی کو اِستری کر رہا ہے۔
پاجامے کو پیوند لگا دو۔
اس کے پاس سوئی ہے نہ دھاگا۔
کالر پر دھبہ کیسا ہے۔
دھوبی نے اس کو اچھی طرح نہ دھویا۔

آں تھقیں پکا استری کھناغیں۔
شلوار اڈکھوے جندے۔
الیشی گرانے شیشنے نے بند تخے۔
کالر ڇکا اے ٹک شوئ نینے۔
دھوبیا جوانیجا لشتا۔

تم اپنے میلے کپڑے کیوں نہیں اتارتے۔
بقچہ لاؤ کہ میں اچھے کپڑے بدلوں۔
براہِ مہربانی قمیض کے بٹن ٹانک دو۔
درزی نے کرتے کی آستینیں درست
نہیں کیں۔
میرے کرتے کے بٹن کہاں ہیں۔
تیرا پاجامہ کس نے سیا۔
میری ٹوپی کا پھندنا کہاں ہے۔
جناب وہ میز پر پڑا ہے۔
آج میری بنیان چوری ہو گئی۔
میرا سلیپر کس نے سیا۔
میری پگڑی ململ کی ہے۔
یہ پگڑی ریشمی ہے یا سوتی۔
میری چھتری کا غلاف سی دو۔
ڈیرہ میں کلاہ فروش کون ہے۔
تم نے واسکٹ کی بانات کہاں
سے خریدی۔

تھووتی لڈوائیں جراں مچھے ایر نخنے۔
بشکا بیاریں وتی جراں بدلیناں۔
مہروانیا کھاں قمیض بنٹراں جن۔
درزیرا آ کرڑتھئے آستیغ درستا نخنا۔

منیں کرڑتیئے بٹن بکھراں۔
تھئیں شلوار کھیا دوختا
منیں ٹوپیئے پھل بکھراں۔
خان آں میز چھکاں کھنتغیں۔
محتا منیں بونین دزژا ایتیا۔
منیں سلیپر کھیا گفتا۔
منیں پٹکا ململفیں۔
اے پٹکا پھٹے غیں یا بندتخے غیں۔
منیں چھتری پوشہ دوش دے۔
دیرہ کلادہ شوشکوخ کھین۔
تھو واسکا نے بانات چھشکو گفتا

☀

موسم

آسمان کا کنارہ گرد آلود ہوگیا۔
گرمی تیز ہوگئی ہوا تھم گئی۔
آسمان اَبر آلود ہوگیا
گرمی کا موسم ختم ہوگیا۔
بادل برابر گھر رہا ہے۔
ہوائیں ہر طرف سے چلتی ہیں۔
سورج کی کرنیں جلا رہی ہیں۔
ہمیں سایہ میں بیٹھنے دو۔
موسم خراب ہوگیا۔
مَیں ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا ہوں۔
مَیں سردی سے کانپ رہا ہوں۔
ہم خزاں کے آخر میں ہیں۔
بہار میووں کا موسم ہے۔
سرما سب موسموں سے زیادہ
ٹھنڈا ہے۔
گرما سب موسموں سے زیادہ
گرم ہے۔

آزمانے دیم ونزا اگفتنا۔
گرم بازبشیا گوآس بند بشیا۔
آسمان جرڑ اگفتا۔
گرم موسنو مگشتا۔
جُوڑ ڈدلا ہبر غیس۔
ہر پہلو سے گواتس کھشغیس۔
روشے چپکا شوشغبیں۔
مارسانیا وانند غا بلبیں۔
موسم دہار بشیا۔
مناں سارٹتیں گوآس محسوس ببغیں
ماں چھپے ہوار الرٹزغاں۔
ماپت جھرڑے چھکیرڑ نیا ماؤں۔
ساتوں ورنہ دانی موسویں۔
سیالا کُل موسواں چھپے گہریں۔
اُنالا کُل موسواں چھپے گریں۔

نصف سردی تک دن گھٹتے گھٹتے
اخیر درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔
گرمی میں دن نہایت لمبے اور راتیں
چھوٹی ہوتی ہیں۔
اور سردی میں راتیں لمبی اور دن
چھوٹے ہوتے ہیں۔

روش گھٹانا گھٹانا نیم سیالا واں رواں۔
گرم موسوار روش باز دراز مننتھ شف
کھسان مننتھ۔
سیالا شف مزیں مننتھ روش کھساں
مننتھ۔

اوقات و زمانہ

تم گذشتہ زمانہ میں کیسے رہے؟
نہایت خوشی اور راحت سے۔
میں نے مکان کو ایک سال میں تعمیر کیا۔
میں تم سے ایک ہفتہ کے بعد ملوں گا۔
مہینہ کا نصف قریب ہو گیا۔
میں اور میرا دوست پرسوں سفر کریں گے۔
آج کی رات چاندنی ہو گی۔
مدرسہ اسلامیہ ہفتہ کے دن کھلتا ہے۔
کیا تم اتوار کے دن میرے پاس دفتر
میں آؤ گے۔
میں اپنے سفر سے سوموار کو آیا ہوں۔

تھوا و دختاں چھوں گذار تھا۔
باز خوشی و آراما گزار تھیں۔
ماں یک سال نیا دا کوٹھہ تیار رکھسا۔
ہفتہ پچھتا گالی باں۔
ماہے نیم نزہی بیشا۔
ماں گو ذتی یار ابھیا تھی روشے سفر کھنوں۔
مختاشف مائیخان بی۔
اسلامیہ سکول ہفتہ روشا بسکی۔
تھو آدٹت دفتر ائیں گرا کھلئے۔
ماں دوشنبہ سفر اچھے آختغاں۔

غالباً وہ منگل کو واپس ہوگا۔
یہاں ہفتہ وار بازار بدھ کو لگتا ہے۔
میں آئندہ جمعرات کو ایک ضروری کام کے لیئے لاہور جاؤں گا۔
میں اس سے جمعہ کو ملنا چاہتا ہوں۔
وہ پورا ایک مہینہ پیدل چلتا رہا۔
اس کو تیس برس اسی حالت میں گزرے
رات کا تھوڑا سا حصہ گذرنے پر سو جاؤں گا۔
اور فجر سے پہلے اٹھ جاؤں گا۔
مَیں اپنے کتب خانہ میں صبح کے دس بجے آیا تھا۔
تو نے اپنی جوتی پرسوں کہاں کھودی۔

شئیت آں سہ شبنہءَ تفری۔
ایزا ہفتہ سرا سیلا چہار شبنہ بی۔
ماں دبنی پنجشنبہ ضروری کارسے لاہورا رواں۔
ماں آنہا جمعہ روشا ملغ چہاں۔
آں مڑ پورائیں ماہ پیازغی جزسا۔
آنہا سی سال ہیۓ حالتا گوگوستغاں۔
شفے کھمسیں لحظہ سچھراناں دوساں۔

روش بیسغا چھے پھیشا کھڑوباں۔
ماں وتی کتب خانہ بانگاہ دہ وجہ آختغاں۔
تھو پھیری وسی چھبو کھو شمونشتہ۔

پڑھائی لکھائی

مجھے اپنا سبق سناؤ۔
اس کو دہراؤ۔
اس کے معنی بیان کرو

مناں نوخیں سبق سنڑ ابئں۔
ایشا دوہمی ولیہا پڑھ۔
ایشی معنی ڈس۔

پکار کر نہ بولو۔	زور گو گا لوار فحاں۔
میرا قلم بنا دو۔	منیں قلم جوڑیں دَہ۔
مجھے اپنا چاقو دو۔	مناں وسی چاقوءُ دے۔
میں انگریزی قلم سے لکھتا ہوں۔	ماں گو انگریزی قلم لکھاں۔
میں تم کو لکھواتا ہوں۔	ماں تھرا لکھائیناں۔
وہ میری کتاب کی نقل کر رہا ہے۔	آں منیں کتاب دے نقل کھلغیں۔
اس سطر کو قلمزن کر دو۔	اے سطرا ختم کھاں۔
مجھے اپنی پنسل مانگی دے دو۔	مناں وسی پنسلا مانگوی دَے۔
یہ سیاہی اچھی طرح نہیں چلتی۔	اے مس جوانہا بچلی۔
اس میں تھوڑا پانی ڈالو۔	ایشا کھمیس آف سٹھ۔
میں نے اپنی کاپی کھو دی۔	ماں وسی کاپی پھیر نتھا۔
میری کتاب اور قلمدان لاؤ۔	منیں کتابات قلمدانا بیاریں۔
مجھ سے سلیٹی کس نے لی۔	اژ ماں سلیٹی کھیا گفتا۔
مجھے ایک انگریزی قلم عنایت کیجئے۔	مناں یہ انگریزی قلمے دیہے۔
میری روشنائی بہت گاڑھی ہے۔	منیں مس باز براں۔
یہ کاغذ کھردرا ہے۔	ایہ کاغذ بر سینے۔
کسی کام کا نہیں۔	کوئی کار سے نیں۔
تم اچھا نہیں پڑھتے۔	تھو جوانہا پیڑھے۔
پنسل سے کرد صفحوں پر لکریں کھینچو۔	پنسلا گرد و صفحہ چھکا لکیراں چھک

گھنٹی بج گئی ۔	گنٹی وجی ۔
دوسرے کمرے میں چلو ۔	وُھمی کمرہ نیا واجُزیں ۔

نِشست و برخاست

بھائی اٹھو ۔	برّاس کھڑوبی ۔
آرام سے بیٹھو ۔	آراوا کے نند ۔
میرے برابر بیٹھو ۔	گوغاں براور لیغانند ۔
ٹھیک بیٹھو ۔	جوانہانند ۔
مجھ سے دور ہو جاؤ ۔	اڑماں ڈیربی ۔
اپنی جگہ بیٹھے رہو ۔	وسی ہندہ نِشستغابی
یہ جگہ مت چھوڑو ۔	اے ہند لواں بلے ۔
دری پر بیٹھو ۔	دری چھکانند ۔
راستہ سے ایک طرف ہو جاؤ ۔	راہ چھپے یہ پہلوابی ۔
کھل کر بیٹھو ۔	پراہ ہیں نندیں ۔
جہاں تم حکم کروگے وہیں بیٹھوں گا ۔	ہوزاکہ ڈسے ہوزنندا ں
جہاں تو بیٹھا ہے وہیں رشید بیٹھا تھا ۔	اوزاکہ تھو نشتغاسے اوزا رشید نشتغیں ۔
وہ اتنا کھڑا رہا کہ اس کے پاؤں سوج گئے ۔	آں اِغروِ جکھشا کہ آنھےَ پچار نیپشا ۔
وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے ۔	آں سدھا ئیغا جکھسغا ۔

میں ساری رات جاگتا رہا۔
وہ سویرے جاگتی ہے۔
تم سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہو۔
میں اسے سات بجے جگاؤں گا۔
کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے
اللہ کو یاد کرو۔

ماں بدھائیں شف جاگسا۔
آں بانگا ہاں کھڑوبی۔
تھورش ٹھکا کھڑوبے۔
ماں آنہا ہفت وجا کھڑو کھناں۔
جھکسغا، وختغا نشتغا اللہ یاد
کھنیں۔

مالک اور نوکر کا مکالمہ

صاحبِ خانہ۔ کوئی شخص دستک
دے رہا ہے۔
جاؤ دروازہ کھولو۔
کون دستک دیتا ہے۔
کیا خواجہ جمیل یہاں ہیں۔
ہاں وہ دفتر میں ہیں۔
کیا آپ انہیں میرے آنے کی
خبر دیں گے؟
کیا آپ یہ پوچھنے کی اجازت دیتے
ہیں کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟
میرا نام احمد ہے۔

لورغ واژہا۔ کھسے گلیا کھڑکنیغیں۔
بَرو گھلیا لوژ۔
کھے گلیا کھڑکنیتغیں۔
خواجہ جمیل ہوزا استیں۔
ہو آں دفتریں۔
تھو مہروانی کھنے آنہا منیں
حال دیئے۔
تھو اے ہول کھنغے اجازت دیئے
کہ تھیں نام کھیئں۔
منیں نام احمدیں۔

خواجہ احمد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
ان سے کہہ دو اندر آجائیں۔
کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟
اگر اس وقت خواجہ مشغول ہوں تو مَیں
ان کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔
مہربانی فرما کر اندر تشریف لائیے۔
جناب آپ کی صبح نیک ہو۔
میرے دوست آپ کو بھی صبح
مبارک ہو۔
کرسی لیجئے اور بیٹھ جائیے۔
میرے پیارے دوست خوش آمدید۔
میں گذشتہ ہفتہ دو مرتبہ آیا۔
لیکن نصیب میں نہیں ہوا کہ آپ
سے ملوں۔
مَیں اس وقت گھر میں موجود نہ ہونے
پر افسوس کرتا ہوں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ خوش واپس
گئے ہوں گے۔
بے شک میں بہت خوش واپس ہوا۔

خواجہ احمد گو تھو ملغ چہاں۔
آنہا گُشدَ ے اندر اییئے۔
تھو آنہا گو ملغ چھے۔
اگر اے وختا خان کوئی کارے مشکولائیں
گڈا ئیں آنہا تکلیف دیغ پسند نکناں۔
مہروانیا کھاں اندر ابیا۔
خان تھئیں بانگاہ نیک با۔
منیں دوست تھرا دے ہیرت
روش مبارک با۔
کرسیا گرات نِندی۔
منیں دوست خوش باتے۔
پھڑی گڈیاماں دو وختا آختغاں۔
بھتے ملاقات نصیب نو لیشا۔
افسوس کہ آں وخت لوغا نو لشتغاں
مناں امید کہ تھو خوشنغا تھر ثغے۔
واقعی ماں باز خوشیغا تھر ثخاں۔

بے شک مجھے خوشی حاصل ہوئی۔
میرے قریب آجائیے کہ کچھ دیر
باتیں کریں۔
میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔
آپ تمام دن میرے ساتھ رہے۔
میں اپنے بھائی کا منتظر ہوں۔
ہم گاڑی میں سوار ہو کر صنوبر کے
جنگل میں سیر کو چلیں۔

واقعی مناں خوشی بیا
منیں گرا بیا کہ درو کھا گالوار کھنوں۔

ماں تھیں باز شکر گزاراں۔
تھو بدا ایئں روشا منیں گرا بے۔
ماں وتی براے انتظاراں۔
ما گاڈی چھکا سوار بوں صنوبر جنگلے
سیرا جُزدوں۔

سالِ نو کی مبارک باد

جناب! میں آپ کو اس سال میں
اچھی صحت کے ساتھ داخل ہوتے
دیکھ کر بہت خوش ہوں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ اس موقع پر
میری مبارک باد قبول فرمائیں گے۔
میں بہت شکر گزار ہوں آپ کیلئے
سالِ نو مبارک ہونے کی خواہش کرتا ہوں۔
میں تمہارے لیئے وہی چاہتا ہوں جو آپ
میرے لیئے چاہتے ہیں۔

خان! ماں تھرا اسے سالہ گو سنڑا ایئں
صحت ولیبو باز خوش بیتغاں۔

ماں امید کھناں کہ تھو منیں مبارکباد
قبول کھنئے۔
ماں باز شکر گزاراں ماں تھیں واسطہ وے
نوخیں سالے چوان بیغے خواہشمنداں۔
ماں تھیں واسطہ ہواں چیز ذہش کھناں
آں چھیا کہ تھو میں واسطہ ذہش کھنئے۔

امید کرتا ہوں یہ سال آپ کے اور
آپ کے خاندان کے لیئے صحت،
اُمن، فراغت کا سال ہوگا۔

مَیں جناب کی خبر طلبی پر بہت ہی
ممنون ہوں۔

کیا آپ اِجازت دیتے ہیں کہ مَیں
آپ کے سامنے ایک ناچیز سا تحفہ
پیش کروں۔

مَیں اسے دِلی شکریہ کے ساتھ قبول
کرتا ہوں۔ لیکن مجھے بھی اِجازت
دیجیئے کہ مَیں اپنی طرف سے یہ
انگوٹھی آپ کو دوں۔

آپ کی فیاضی کس قدر بڑی ہے کہ
مجھے اس قدر قیمتی چیز دیتے ہیں۔

یہ تو ایک ناچیز ہدیہ ہے اور ذکر کے
قابل بھی نہیں

اس نشانی کے لیئے جو آپ کی سچی دوستی
پر دلالت کرتی ہے مَیں آپ کی مہربانی
کا بہت شکر گزار ہوں۔

امیدیں کہ نوئیں سال تھئیں اَت
تھئیں ٹھالا واسطہ صحت، امن،
فراغتے سال بی۔

ماں تھو یاد کھنے باز احسان منداں

تھومناں اجازت دیئے کہ ماں
تھیں واسطہ ایہ بیکاریں تحفہ پیش
کھناں۔

ماں آنہا گودلا قبول کھناں۔ تھو
مناں اجازت دسے کہ ماں تھُراَ
مندری دیاں۔

تھیں دل اِخر سخی ئیں کہ تھو ایر گیں
قیمتی شئے مناد لغئے۔

اے بیکاریں شئے نام گرغ لائقہ
دے نئیں۔

اے نشانی کہ ہردفتا تھئیں دوستی یاد
کھنائی ماں تھئیں شکریہ اُدا کھناں۔

آپ کے لیئے خوشگوار عید چاہتا ہوں
خدا آپ کو برکت دے ۔
اور خوش زندگی عطا فرمائے ۔
آپ کی بڑی مہربانی ۔
میں جناب کا بہت ہی شکر گزار ہوں ۔

مھیں دعا کھناں کہ اللہ تھرا سونڑاں
خوشی اَتے عید نصیب کھاں ۔ اللہ
برکت کھناں ۔
اَتے نیکیں زندگی نصیب کھاں ۔
تھیں مڑیں مہروانی ہَے ۔
ماں خان باز احسان منداں ۔

رات کا کھانا

زینب کیا رات کا کھانا تیار ہے ۔
ہاں وہ دستر خوان پر چن دیا گیا ہے ۔
آؤ ہم دستر خوان کے گرد اپنی جگہوں
پر بیٹھیں ۔
اچھا لیجیئے یہ آپ کی جگہ ہے ۔
تولیہ لیجیئے اپنے آگے رکھ لیجیئے ۔
کیا آپ مرغی کا شوربہ پسند کرتے ہیں ۔
مہربانی فرما کر مجھے تھوڑا سا دیجیئے ۔
فرمائیے کیسا ہے ۔
نہائیت عمدہ ۔
حسب منشا ہے ۔

اوزینب شف نغن تیار ریں ۔
ہَو سوار رغ کندوری چھکاء ۔
بیا ما کل کندوری اِندو آنڑ داوسی
ہندائی چھکا ہندوں ۔
اچھا ۔ اے ہند تھیغنیں ۔
تولیہ گرِ وسی دیما ایرِ کھن ۔
تھو گرڈ شوروائں خوش کھنے ۔
مہروانی ہَر کھن مناں کمیں دَیے ۔
ڈس بوڑ شو لیسنے ۔
باز جوانینے ۔
مینس منشا ڈولیں ۔

اِس میں نمک حسبِ ذائقہ نہیں ہے۔
یہ نمک دانی ہے۔
آپ چاہتے ہیں تھوڑی سی مچھلی آپ
کے آگے رکھ دیں۔
جناب خود تکلیف نہ فرمائیں۔
مجھے پلیٹ دیجیے۔
مَیں اپنے لیے لے لوں گا۔
مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو
ایک پسلی کا ٹکڑا دوں۔
آپ یہ مربہ اَور پھل کھائیں گے۔
مَیں اب زیادہ نہیں کھا سکتا
آپ نے اچھی طرح نہیں کھایا۔
معاف رکھیے مَیں نے اچھی طرح کھایا۔
مَیں نے بہت زیادہ کھا لیا۔
افسوس آپ کے لائق ہمارے پاس
کوئی چیز نہیں۔
نوکر میوہ لاؤ
شفتالو کھائیے۔
گرم کیک اچھے ہیں۔

وہاز اگر کٹیں نے۔
ایہ وہاز ڈبہ ایں۔
تھیں مرضی بی تے ماہی غنے تھیں
دیما ایر کھناں۔
خان۔ تھوس تکلیف منخن۔
مناں پلیٹا دَے۔
ماں وس بورڑے زیراں۔
مناں اجازت دیَے کہ مَیں تھیں
واسطہ پھلیغی ٹوٹا ئے دیاں۔
تھو مربہ اَت میوہ واڑتھا۔
ماں نی باز واڑ تھیغ نخناں۔
تھو گودلا نواڑتھا۔
مافی دیے ماں گودلا واڑتھا۔
ماں باز واڑتھا۔
افسوس تھیں ڈولیں چیز مے گرا نیستا۔
نوکر میوہ بیار۔
شفتالو بڑو۔
گرمے کیک جہیں جوائیتاں۔

یہ چائے کا پیالہ لیجیے۔	ایہ چاہ پیالیہ گر۔
اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا دودھ چاہتے ہیں۔	تھوگو چاہ ہا پچھیا چیئے شیر لوٹھیئے۔
اس میں شکر ہے۔	ایلشی نیا ما شکر اوارین۔
اس مٹھائی میں سے کچھ ضرور لیجیے۔	چھے وہشیا چھے چیئے ضرور گر۔
آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکر گزار ہوں۔	تھیئ میمانی باز شکر گزاراں۔
اس کا فکر نہ کیجیے۔	ایلشی چِنتا مکن۔
ہم آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔	ماہر وتھُرا خوش آمدید کھنغا تیاروں۔

گاہک اور دوکاندار کی گفتگو

براہِ مہربانی کپڑوں کے چند نمونے مجھے دکھائیے۔	مہروانی کھاں جرانئے چھے نمونہ شوندے۔
بڑی خوشی سے۔	ماں باز خوشاں۔
آپ کون سا رنگ پسند کرتے ہیں۔	تھو تھاں رنگ خوش کھنیں۔
موسمِ بہار کے کپڑوں کے لیے نیلا رنگ بہت عمدہ ہے۔	چیتراہاڑا موسما نیلگیں باز ٹھکیں۔
آپ نے ٹھیک کہا۔	تھو ٹھیک گشتاء۔

بعض لوگ دھندلے رنگوں کو ترجیح
دیتے ہیں۔
میں تو گہرے رنگوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ لیجئے کون سا نمونہ آپ کو پسند
ہے۔
مَیں گلابی رنگ کو پسند کرتا ہوں۔
مَیں ڈرتا ہوں کہ یہ رنگ جلدی نہ
اُڑ جائے۔
یہ رنگ بہت عرصہ تک رہے گا۔
اس کپڑے کی قیمت کیا ہے۔
کم سے کم قیمت دس روپے فی گز
ہے۔
تعجب ہے دس روپے تو بہت مہنگا ہے۔
کھلی لوٹ ہے۔
مَیں نے آپ سے مقررہ قیمت
کہہ دی ہے۔
مَیں اپنے گاہکوں سے جھگڑنا پسند
نہیں کرتا۔

کھرڈوے جہاں پر وَیں رنگاں پسند
کناں۔
ماں وس ایر گیں رنگاں پسند نخناں۔
ہاں گرہ۔ ہر نمونہ تھرا پسندیں۔
ماں سہر زرڈیں رنگ پسند کھناں۔
ماں تھرڑساں کہ رنگ جلدی نہ
پھٹیئے۔
ایہ رنگ باز سال تک ہنڈیئے۔
ایہ جرے چھے بجایَں۔
گھٹے گھٹ الشی قیمت دہ روپیہ
یک گزیں۔
حیراناں کہ تھو چھے گشتا دہ روپیہ باز
گرانیں بجائے۔
ظاہریں لٹے۔
ماں تھرا پورائیں بجاڈ ستشا۔
ماں وسی گاہکاں گو جھگڑا خوش
نخناں۔

یہ ٹھیک ہے لیکن اگر تانا بانا اعلیٰ درجے
کے ریشم سے بھی فرض کرلیں تو
بھی دس روپے فی گز گراں ہے۔
اگر آپ سارا تھان خریدیں میں آپ
کو پانچ فیصد کمیشن دے سکتا ہوں۔
بیس گز کپڑا آٹھ روپیہ فی گز کے
حساب سے قطع کردیجئے۔

ایہ ٹھیکیں۔ البشا تو ڑے ریشم
وے سمجھوں وَت وی دہ روپیہ
یک گزے بازگرانیں۔
اگر تھو کُل تھان گِریں گڈا ماں تھرا
پنچھ روپیہ سر چھکا کمیشن داسا کھناں۔
گیست گز جر ہشت روپیہ یہ گزے
حساب کٹ کر۔

ضروری متفرق جملے

تو کون ہے۔ تیرا کیا نام ہے۔
یہاں آ۔ وہاں جا۔
تو کہاں سے آیا۔ کیوں آیا۔
تیرا کیا حال ہے۔
تیرا گھر کہاں ہے۔
میرے پاس آرام سے بیٹھ۔
ٹھیک اور کھل کر بیٹھ۔
تو کہاں جاتا ہے۔
میں پیاسا ہوں۔ پانی لا۔
جلدی مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔

تھَو کھئے۔ تھَیں نام چھے ئیں۔
ایزا بیا۔ اوزا برو۔
تھو اشکھو آختغے۔ چھے آختغے۔
تھَو چھے حال ئیں۔
تھَیں لوغ بکھریں۔
منیں گرا آراما گونند۔
جوانئی ات چھڑا بی نند۔
تھَو بکھو روغے۔
ماں تھنغاں۔ آف بیار۔
تھکھا ئے مناں سارٹ تھیں آف [illegible]

گرم پانی مت پلا۔	گرمیں آف نواں براٹنیں۔
تازہ پانی لا۔	تازمیں آف بیار
باسی روٹی مت کھا۔	پَروتھاپیں نغناں مُور۔
روکھی روٹی مت کھا۔	ہشکھیں نغناں مُور
میں بھوکا ہوں کچھ کھلاؤ۔	ماں شنزلیغاں۔ چھپے براپیں۔
میں سیر ہو گیا۔	ماں سیر کھساٹ۔
پانی گرم کرے یا ٹھنڈا کرے۔	آف گرم کھاں۔ ساڑ تھکاں۔
چپ بیٹھ۔ آہستہ چل۔	چھلپیغانند۔ زمیخا جر۔
تو کیا پڑھتا ہے۔	تھَو چھپے پڑھے۔
اپنا سبق پڑھتا ہوں۔	ماں وسی سبق پڑھاں۔
تو بہت اٹکتا ہے۔	تھَو بازاڑسے۔
بلند آواز سے پڑھ۔	کھڑ ویغا پڑھ۔
میرے آتے ہی وہ بھاگ گیا۔	منیں آغا چھپے آں گرڈ کھسوشتا۔
کیا ہو رہا ہے۔	چھپے بیغیں۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں۔	تھَو جوانیخا گشتے۔
آپ غلطی پر ہیں۔	تھَو غلطی چھکاتے۔
آپ نے ٹھیک بات کہی۔	تھَو راستاں گالوار گوکشتا۔
اس کو ایک طرف رکھ دو۔	الیشا بپہلو تے ایر کھاں۔
اس کا کیا مطلب ہے۔	الیشیَ چھپے مطلب اسے۔

خوشگوار مکان (مقام)

آئندہ احتیاط رکھو۔

ایسا پھر نہ کرنا۔

میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔

میرے پاس جلدی آ۔

یہ افواہ غلط ہے۔

مَیں بھوک کے مارے مَرا جاتا ہوں۔

اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔

اسے خوب پکڑ لو۔

اسے کم سے کم ایک ماہ ہو گیا۔

آئندہ ماہ کے وسط یا آخر میں۔

مَیں اپنے کام میں مصروف ہوں۔

مَیں نے اس کا کام پورا کر لیا۔

تم مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہو۔

بیسواں صفحہ نکالو۔

میرا چاقو اچھی طرح نہیں چلتا۔

اس کی دھار کند ہے۔

میرا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔

میرا قلم خراب ہے۔

جَوائیں ہند۔

چھیز پھر ا احتیاط کھن۔

ایرگا تھر سے نواں کھنے۔

مائی سامنڑا چھے دیری۔

تھکھا یَیغ منیں گرا بیا۔

اے بولی دروغیں۔

ماں چھے شزا ہراں رواں۔

چھے شیا چھے سوا منیں کار نکلی۔

ایشتا جوانیخا گرہ۔

آ نہی آ کم از کم یہ ماہ بیشا۔

نوغیں ماہ نیا ما یا آخرہ۔

ماں وسی کار گو مشکولاں۔

ماں آ نہی کار پورا کھسا۔

تھو منیں چھکا دروغیں بدنامیائے لائے۔

گیستویں صفحہ کھش۔

منیں چاقو جوانیا نکلی۔

اے کھٹیں۔

منیں قلم پرشتہ۔

منیں قلم دہاریں۔

آپ کو سخت چاہیئے یا نرم۔
ہوا میری ٹوپی لے اڑی۔
کیا ڈھونڈتا ہے۔
آمدنی کم ہوگئی ہے۔
خرچ زیادہ ہوگیا۔
میں نے پرانے کرتے کو پیوند لگایا۔
میں تم سے خوش ہوں۔
وہ تم سے ناراض ہے۔
بہتر یہ ہے تم اسے لے لو۔
یہ کام تمہارے لائق نہیں۔
یہ آپ ہی کے لیئے مناسب ہے۔
مجھے اس کا علم ہے۔
میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔
چھتری بند کر لو۔
میں اچانک داخل ہوا۔
اس کا چال چلن اچھا نہیں۔
میں اس کی شیخی نکال دوں گا۔
میں نے اسکو ایک طمانچہ سے گرا دیا۔
منگنی ٹوٹ گئی۔

تھراکوراڑاتیں ضرورتیں یا نرمیں۔
گوآسا منیں ٹوپی اڈار تھا۔
چھپا پھولنے۔
آمدن گھٹسا۔
خرچ بازبیسا۔
ماں دسی کھونیں کرٹتیاڈ کھوجھتا غاں۔
ماں نقیں چھکا خوشاں۔
آں اشتو ناراضیں۔
بہتر ہوشیں کہ تھوا ایتیا گر۔
ایہ کار تھیں لائق نیئں۔
ایہ تھیں واسطہ مناسبیں۔
مناں آں سیے خبریں۔
ماں اشتو معافی لوتاں۔
چھتر یا بند کھن۔
ماں ناگواں داخل بیستغاں۔
الیشیار کھڑدار دہاراں۔
ماں الشی مستی کھشاں۔
ماں آں گو یہ طمانچہ ستسا۔
منگڑ د ترلسا۔

آفتاب کی کرنیں بلند ہوگئیں۔
مَیں اپنے ساتھ پیسے نہیں لایا ہوں۔
اس کے ساتھ نرمی سے معاملہ کیجیے۔
چوہا زور سے کودا۔ دیوار کے سوراخ میں گھس گیا۔
ہم یہی چاہتے ہیں۔
تہمت کی جگہ سے بچو۔
کاش مَیں ان کے ساتھ ہوتا۔
امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے۔
تم غلطی پر ہو اور مَیں راستی پر۔
تم ملامت کے مستحق ہو۔
مَیں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔
وُہ اپنے کمرے میں اکیلا ہے۔
مجھے اکیلا رہنے دو۔
مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔
انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے۔

روشن شعاع کھڑو ویئاں۔
ماں پھنجی بی نیاڑ تھا۔
آنہیا گوز نرمیٔ کھنیں۔
مشک زورا گوٹپا وارٹھوہوڈا پھشا
ماہوئے چھوں۔
تہمت ہندا چھے بچ۔
افسوس ماں آنہیا پچھیا بیتاں۔
مناں امیدیں کہ تھو مناں معاف کھنیئے۔
تھو غلطی چھکاسے ماں راست چھکاں
تھو گگہ حقدار سے۔
ماں تھرا گستاغاں تھرا ریگالواں کھنے
آں اکیھا وسی کمرائیں۔
مناں اکھوا بلیں۔
متیں وسی حالت چھکا بلیں۔
بندہ چاہئیں کہ آں دنتار گندی۔

میں گمان نہیں کرتا کہ تم اس میں
کامیاب ہو۔
میں ایک ضروری معاملہ میں آپ
سے مشورہ چاہتا ہوں۔
مجھے اس کا کچھ غم نہیں
آپ بے فکر رہیے۔
یہ میرے متعلق نہیں۔
یہ میرا کام نہیں ہے۔
بہتر ہے کہ اس کو واپس کر دو۔
اس کے ہاں مہمان آیا۔
اس کے مہمان نے اجازت چاہی۔
یہ ذکر کے لائق نہیں ہے۔
میرے بھائی کو کل بخار ہو گیا۔
آج وہ روبصحت ہے۔
ہر شخص اس کی تعریف سے
عاجز ہے۔
اسے میرے پاس لاؤ۔
یہ بڑی شرم کی بات ہے۔
میں تہہ دل سے چاہتا ہوں۔

تھیس کامیابی مناں خیال وے نیتی۔
ہاں ایہ ضروری کارسے اشتو صلاح
کھنغ چہاں۔
مناں ایشی ہیچ موبخ نیئں۔
تھوبے چنتابی۔
ایہ منیں متعلق نیئں۔
ایہ منیں کارنیئں۔
بہتر ایشی کہ ایشا تھریں وسئے۔
آہنی گرا میمانی آخت۔
آہنی میوانا رخصت بوٹسا۔
ایہ پچاری ڈولا یئیں۔
منیں براسا تھف بیسا۔
مختا آں صحت والائی۔
ہر آدمی آہنی تعریف شئے عاجزاں
آہنی منیں گرا بیارں۔
ایہ مزیں بے حیائی ڈوکیں۔
ماں گوتۂ دلی چہاں۔

بلوچی تار

اردو	بلوچی
تم کون ہو ؟	او تھو کھئے ؟
میں میر محمد ہوں ۔	او ماں میر محمداں ۔
کس کا بیٹا ہے ؟	کھئ باچھے ؟
میں سونے خاں کا لڑکا ہوں ۔	او ماں سوناخاں بچیاں ۔
تم کہاں جارہے ہو ؟	او تھو تھا نگورو غنے ؟
میں شہر جا رہا ہوں ۔	او ماں شہر اروغاں ۔
میری گائے گم ہے تم نے نہیں دیکھی ؟	او مئ گوخے گارے نیسے ؟
نہیں ۔	او ناہ ۔
تم کب واپس آؤ گے ؟	او تھو کھذیں تھرسے ؟
میں کل واپس آؤں گا ۔	او ماں بانگاہ تھراں ۔

حال احوال

اردو	بلوچی
السلام علیکم ۔ تندرست ہو ۔	السلام علیکم ۔ دراہے ۔
ٹھیک ہو اچھے ہو ۔ خیر تو ہے ۔	خوشے ۔ بھرٹے ۔ ہیرنے ۔
خیر گذری ۔ اچھے ہو ۔ تگڑے ہو ۔	ہیر بیے ۔ بھرٹے ۔ تکڑائے ۔
وعلیکم السلام ۔ خیر سے ہوں ۔	وعلیکم السلام ، ہیریں ۔

تم کو خیر ہو۔ خیر مانگتا ہوں۔ میں اچھا
ہوں۔ میں تکڑا ہوں۔
سنائیے اور کیا حال ہے
ہمارے خاص حال نہیں ہیں۔
اوپر وطن میں پڑا ہوں۔
بارش نہیں ہوئی۔
گھاس وغیرہ نہیں ہے۔
مویشی تنگ ہیں۔
اناج مہنگا ہے۔
سردی کا زور ہے۔
ہمارا گھر خراب ہوا۔
میں نے صبح گدھا ساتھ لیا۔
شہر روانہ ہوا۔
روپیہ نہیں ہے۔
بکری ساتھ لی۔ ارادہ کیا کہ شہر میں
بیچتے ہیں۔ غلہ خریدتے ہیں۔
میں نے صبح کھانا گھر میں کھایا۔
اس طرف راستہ سے ابھی ادھر آیا۔
اور خیر ہے۔

ہیرَ بیسے ۔ ہیرَ لوٹھوں ۔ بھرٹوں ۔
تکڑا اوں ۔
جی حال وہ ۔
گوما حال خاص نے ۔
مابڑزا وطنا کھفتغاوں ۔
ہور بارش نے ۔
ڈیخ ڈکالاں ۔
مال کھا نہالاں ۔
دانۂ نی نرخ گرانا ۔
گہارانی زورے ۔
منے ہلکے لنگڑبی ۔
ماں بانگی کھرے چکسیں ۔
شہر روانے بسیا ۔
زرڈائی نے ۔
مابزے چھکوں ۔ گوشتیں اشی شہر
شوشکوں دلانے گردوں ۔
ماں بانگی سوارغ ہنداکھیس چھاگو ۔
رائیانی بھید کھاؤں ۔
تھئی ہیریں ۔

خدا خیر کرے ۔
تم اپنا حال سناؤ ۔
ہمارا کوئی حال نہیں ۔
ڈیرے میں بیٹھا ہوں ۔
اپنی ملازمت کر رہا ہوں ۔
کوئی خراب حال نہیں ۔
خیریت ہے ۔
بارش تھوڑی سی ہوئی ہے ۔
آٹا سرکاری ڈپوؤں میں بہت ہے
ہمیں کوئی تنگی نہیں ۔
ہم کل دفتر میں رہے
آج جمعہ کی چھٹی تھی ۔
صبح بس پر سوار ہوا ۔
سخی سرور صاحب آیا ۔
وہاں سے پیدل روانہ ہوا ۔
جان محمد سے کام تھا ۔
اس کا گھر گربن میں ہے ۔
میں اس راستہ سے اوپر جا رہا تھا ۔
آپ کو خدا لے آیا ۔ اور خیر ہے ۔

خدا ہیرے کنا ۔
تھو حالیدے ۔
گوما حال نے
ماہ ویرو انشتغاؤں ۔
وسی ملازمت کھنغوں ۔
بدزیانِ حال نے
ہیرت استیں ۔
ہوری بدروئے مے گرابیسا ۔
آرٹھ سرکاری ڈپواں بازیں ۔
مار کوئی تنگی نے ۔
مازی دفترا بیسغوں ۔
مروشی جمعہ شریف چھٹی آ ۔
بانگی بسا چڑھوں ۔
سخی سرور صاحب کھاؤں ۔
چھوڑا پیاد گاں رواں بوں ۔
جان محمدا کارے ۔
اشی ہلکھ گربنیں ۔
ماں چھاگو چھے رائیا بڑزا روغ ۔
سو تھرا اللہ آرٹھا ۔ تھئی ہیریں

محاورات

۱۔ میمان بی گو وقتا
روزی کھے گو نجبا

مہمان وقت کا اچھا ہے۔
روزی قسمت سے ملتی ہے۔

۲۔ زالا مدہ تھو حالا
سرو نخفتے مالا

عورت کو راز نہ دے۔
بالکل نہیں ٹلتی۔

۳۔ منصف جھکا نِدے
انصاف نیغا گِندے

عدالت پر بیٹھیں تو
انصاف لازمی کریں۔

۴۔ ملکھا بیائے شفیغا۔
گوانکھا جان دیر تھرلیغا۔

رات کو گھر آؤ تو دور
سے آواز دو۔

۵۔ بندا ہواں جوانیں۔
کلاں جھے کھسانیں

جوانمرد وہ ہے جس میں
عجز و انکسار ہو۔

۶۔ ہتھیار ہواں پیارا
جنگاوا ہرٹغ کارا

ہتھیار وہ جو وقت پر کام
آئے۔

۷۔ بے زرا مرو بازارا
روحا مذے آزارا

بغیر پیسے کے بازار نہ جائیں
اور روح کو تکلیف نہ دیں۔

۸۔ اللہ بے نیازیں
کلانی کارسازیں

اللہ بے نیاز ہے
سب کا کارساز ہے۔

۹۔ خدائی قدرت ہر ہندوسی
بندا موا کھذاں بندہ وسی

خدا کی رحمت ہر جگہ برستی ہے۔
بندہ بندے کا دست نگر نہ ہو

۱۰۔ روزی ہواں لجی مغاں

رزق وہ جو شرمسار نہ کرے۔

سواری ہواں شف مخاں	سواری وہ جو وقت پر پہنچائے ۔
۱۱ ۔ بلوچھائیں رغ لستغیں کھوان	تنگدستی بلوچوں کی ساتھی ہے ۔
۱۲ ۔ مالا کو ٹھمبراں شراں بے مالا بلوکھاں گراں	جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے ۔
۱۳ ۔ دُزرواں ورائیاں بندراں ۔	پختہ نہیں ارادہ تو تنکا بھی پہاڑ ہے ۔
۱۴ ۔ پھولغاں دز نلبھاں ۔	چور ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ۔
۱۵ ۔ لیٹر ودزی کوھیں گھیسی لوی ۔	اونٹ کی چوری رینگ رینگ کر چلنے سے نہیں ہوتی ۔
۱۶ ۔ مرڈوے پھے مرڈ لغاترڑی پھشاوسی ساہا گھرڑی	جو دوسروں کو ختم کرنا چاہے پہلے خود کو ختم سمجھے ۔
۱۷ ۔ آں مرڈ پھشغاں عزنیاں مساں شلواراں شفزیاں	جو شخص احتیاط نہیں کرتا نقصان اٹھاتا ہے ۔

نثر پارے

بلوچی پھیغام

اوھتو روغے بڑزا جان محمدا
گندے آھیا گشتے گوش خان محمد
گوشغا مئے زراں اے پہلیا پھیشیا
کھسے دستائے گرا ضروردیں دیمے
مناں زرانی باز ضرور تیں تھئے
چھکا فرضیں ۔ مئے پھیغاوا دیئے ۔

ادا دِھیاں کھنے مئے پھیغاوا شو
وشے اگر تھو منگر تھینے ماں وس
روغساں ۔ مئے پھیغاوا ضرور دیئے

بلوچی پیغام

برادر ۔ آپ اوپر جا رہے ہیں ۔
جان محمد کو ملیں اس کو کہیں کہ خان محمد
کہہ رہا تھا میری رقم یکم تاریخ سے
پہلے کسی کے ہاتھ ضرور بھیج دیں ۔
مجھے روپے کی سخت ضرورت
ہے آپ کا فرض ہے میرا پیغام
پہنچا دیں ۔
بھائی دیکھیں میرا پیغام بھول نہ جانا
اگر آپ نہ ملتے تو میں خود جا رہا تھا میرا
پیغام ضرور دے دینا ۔

شوانکھے مالا گو گالوار

بیا کھری بیا تھرا زنے دیاں ۔
کوکھری ۔ کو بگڑ نیلغ نیلغ ۔
شی کھری ۔۔ آہا ۔ آہا

چرواہے کی مال سے گفتگو

اے بکری آ تجھے روٹی دوں ۔
او کھری او بگڑ او نیلو ۔
اے کھری ادھر آ ۔ ادھر آ ۔

او تھو کھیئے گومالا او ماں ڈوٹاں۔
او تھو کھئی بچھے او ماں گوشو بچھا۔
فکو بندے۔
او ماں ماڑی نداں۔

چرواہے تم کون ہو ڈوٹا ہوں۔
تم کس کے بیٹے ہوئیں گوشو کا بچہ ہوں
کہاں رہتے ہو۔
میں ماڑی میں رہتا ہوں۔

بلوچھانی بانی

بلوچوں کا بانی

میر چاکر رند بلوچ چھے حلب ملک شام نوشیرواں بادشاہ ہاگو جنگ واسومے ملک پاکستان سبی ڈاڈر صوبہ سندھ نیاوا آختو آباد بسیا۔ میر چاکر اسیوی وسی صدر مقام ٹھائیتا۔ وسی کلدار چلائیتی۔ میر چاکر سخی و باز بہادر مڑدیا۔ گہارام لاشاری بلوچ حلب چھے میر چاکرا ایچبیا آختہ ایزا اشانی آپس نیاوانا ٹھاہی بسیا دو گھولا ایشانی جنگ بیتیا جنگ حال ماپھدا لکھاں۔ میر چاکر شہک

میر چاکر رند بلوچ ملک شام حلب میں نوشیرواں بادشاہ سے جنگ کے بعد ملک پاکستان صوبہ سندھ ڈاڈر کے شہر میں آکر آباد ہوا میر چاکر نے سیوی کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اپنا سکہ جاری کیا میر چاکر سخی اور بہادر حکمران تھا۔ گہارام لاشاری بلوچ بھی میر چاکر کے ہمراہ حلب سے آیا تھا۔ پھر ان کی آپس میں دشمنی ہوگئی دو دفعہ ان کی آپس میں لڑائی ہوگئی جس کا حال بعد میں لکھوں گا۔ میر چاکر شہک

بچیا سیوی شہر نیا و امیر جاکر ہند وائیں
استاں ۔ گڈا خاں قلات گو جنگ
واسو صوبہ سرحد راولپنڈی تنگھرا
ششتو اباد بسیا ۔ ہویدا وفات پاہی سی۔

کا بیٹا تھا۔ سیوی شہر کے اندر میر جاکر
کے مکان ابھی تک موجود ہیں بعد
میں خان قلات سے جنگ کر کے صوبہ سرحد
راولپنڈی تنگھرا میں جاکر آباد ہوا اور
وہاں وفات پائی ۔

بلوچانی بابائی وطن

بلوچ قوم اصل وطن ملک شام نیادا
اے لوگ ملک شام شہر حلب ہجرت
کھیسو پاکستان پھلوا آختغاں ۔ کیچ
مکران گذر تو ۔ پاکستان بی آباد
بسیغاں ایزا چھے ایشاں ہندوستان
کافراں گو جنگ کھساں ۔ کافرانی
مال لوٹ مار کھس پہاڑانی اندر تھرس
کھاختاں ۔ مغلیہ خاندان بادشاہ
ایشانی سرداراں وسی فیصلانی کھننے
اختیار داسا ۔ ایہ قوم مغلیہ سرداراں
آزاد کھسو اشتا ایشانی سرداراں مزیں

بلوچوں کا آبائی وطن

بلوچ قوم کا اصل وطن ملک شام تھا
یہ لوگ ملک شام کے شہر حلب سے
ہجرت کر کے پاکستان کی طرف چلے
آئے ۔ کیچ مکران سے ہوتے ہوئے
پاکستان میں بی کے مقام پر آباد
ہوئے یہاں پر انہوں نے ہندوستانی
کافروں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں
یہ لوگ کافروں کا مال لوٹ کر پہاڑوں
کے اندر چھپ جاتے مغلیہ خاندان
کے بادشاہوں نے اس قوم کو
آزاد کر دیا اور ان کے سرداروں کو

عہدہ داسنغاں اکبر بادشاہ ایہ
قوم آزاد کھسا دائیں سخی سرور صاحب
گرا دستاویز اکبر بادشاہ موجوداں ۔

بڑے بڑے عہدے دیئے اپنے
جھگڑے فیصل کرنے کا اختیار دیا۔
سخی سرور صاحب کے پاس آج تک
اکبر بادشاہ کی دی ہوئی دستاویز
موجود ہے ۔

بلوچ قوم رسم و رواج

بلوچ قوم ہمیشی زمانہ خانہ بدوش
ستاں ایں لوگ میش بز چھاڑتیں گزارہ
کساں میماں نوازی ایشاں پیشہ استا
اے جہاں سیرانی باز شوقین ساں ۔
سیرانی موقع باز مال کھشاں جہاں
جمع کھناں نغناں دیاں ۔ شفامزیں
مال گوشت ہچی گزاراں دیاں بانگھا
گیست مڑدا میش دیاں ۔ گیست
مڑدا یہ ٹوپہ چادل چہار سیر کھنڈ دیاں ۔
یکہ مڑدا یہ مزیں نغنے دیاں ۔ ہر
فرقہ آدمی وسی مال علیحدہ کھشاں

بلوچ قوم کے رسم و رواج

بلوچ قوم پہلے زمانے میں خانہ بدوش
تھے ۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں چرا کر گذارا
کیا کرتے تھے ۔ مہمان نوازی ان کا
آبائی پیشہ تھا ۔ یہ لوگ شادی بیاہ
کے بڑے شوقین ہیں شادی کے
موقع پر بہت سا مال ذبح کر کے
لوگوں کو جمع کرتے اور روٹی کھلاتے
ہیں ۔ اور شام کو اکثر بڑا گوشت
پکا کر مل کر کھاتے ہیں ۔ صبح کو بیس
آدمیوں کے لیئے ایک دنبہ ایک
ٹوپہ چاول اور چار سیر کھانڈ دیتے ہیں

نغناں پھشتا نیندر وصول کھناں روپیہ
سیر والا دیاں ۔ لعزیں آدمی خیراتی
سیراں کھناں کوئی زرے وصول
نغناں ۔

اور فی کس ایک بڑی روٹی دیتے
ہیں ہر فرقہ اپنا مال علیحدہ ذبح کر کے
اور پکا کر کھاتا ہے ۔ روٹی کے بعد
نیو ندر وصول کرتے ہیں یعنی کچھ روپے
شادی والوں کو دیتے ہیں اور بعض
خیراتی شادیاں کرتے ہیں جو کوئی رقم
وصول نہیں کرتے ۔

بلوچانی کھسے مری آہی وارث
دفن کھفن والائے مال کھشاں دیاں
آں مال گوشتھی کوئی آدمی نواڑ
پھنر آؤخیں مڑداں پھاں ورغ
میاریں ۔ پھیشا مردخ وارثاں
واڑنیاں پھنر باکھی جہاں وڑوواڑ ۔

جب کوئی بلوچ مر جائے تو اس
کے وارث حسب توفیق دفن کفن
کرنے والوں کو گوشت اور روٹی
کھلاتے ہیں اس مال کا گوشت
وہی لوگ کھاتے ہیں جو قبر کی کھدائی
اور کفن دفن میں شامل ہوتے ہیں
بعد میں آنے والوں کو نہیں دیا جاتا
پہلے ورثا اور پھر باقی لوگ کھانا
کھاتے ہیں

سیاہ کاری واردات بازباں
موقع چکھادوئیں کھشی جان آبانی
کوئی چیٹی نیستیں ۔ سزا حکومت نرم

بدکاری کی بہت وارداتیں ہوتی ہیں
اگر موقع پر دونوں مارے جائیں تو
ان کا کوئی جرمانہ نہیں ہوتا ۔ حکومت بھی

دا۔ وارث آہیسے کوئی بدلہ نغزاں زال بچی برو وارث آہیا دیرتھی قومے نیانواشوشکھاں اگر زال کھشی جی۔ چھے سیاہ کارا مزیں چٹی گراں۔ سیاہ کار جرگہ بی کھسے معافی نوبھٹی۔

کسے بے گنائیں قتل کھست وارث آہیسے پور گراں۔ اے جھگڑا باز سالاں تک چلی۔ اگر وارث مزیں چیپئے دیاں گڈا راضی نامہ کھناں گڈا کوئی پور کھس نغیرٹ۔

اگر اسے قومے کھیئے مری وارث حسب توفیق مال کھشاں۔ خیرات کھناں۔ قل خوانی کھناں کوئی زر وصول نغتاں۔

اگر میمان دوازدیا دوازدہ چھے

کم سزا دیتی ہے۔ اور وارث بھی کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اگر عورت بچ جائے تو اس کے وارث کسی دور اور غیر کی قوم میں بیچ دیتے ہیں (اور مرد بچ جائے) تو اس مرد سے بھاری جرمانہ لیا جاتا ہے اور وہ جرگہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔

اگر کوئی بے گناہ قتل کرے۔ تو مقتول کے وارثان بدلہ لیتے ہیں یہ جھگڑا کئی سالوں تک چلتا ہے اگر وارث بھاری معاوضہ دیں تو راضی نامہ ہو سکتا ہے اور کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا۔

اگر اس قوم کا کوئی مر جائے۔ تو حسب توفیق وارث مال ذبح کرتے ہیں خیرات دیتے ہیں۔ قل خوانی کرتے ہیں اور کوئی رقم وصول نہیں کرتے ہیں۔

اگر مہمانوں کی تعداد بارہ یا اس سے

بازباں تھے بھوتاریک میش یا بز
میہمانی دا۔ مہوان دسی گوشت
دش پھشاں۔ نغن لوغاچھے دیاں۔

بلوچانی وَرغ چھرغ

بلوچ جہاں گوژد۔ روغن۔ نیورغ
ورغے باز شوقیناں۔ ہفتہ نیاوا
گوژد ضرور وراں۔ جنگلی جانوراں
گڈ۔ گرانڈ۔ ہرن شکار کھنے شوقیناں
آہانی گوژد وراں زرت۔ باجری
لغنے ورغے شوقیناں۔

اے وقت نیاوا چائے باز رُواج
بیسا۔ سیاہیں آف وہورانی آف
وراں سبزی کھمّے وراں۔ گوہرانی
ھڈا پڑ بندا گوژد اماہانی ماہ وراں
مسافری نیاوا آڑتھائی کھاکھ
پھشاں وراں

زیادہ ہو تو میزبان ایک بھیڑ یا بکری
دیتا ہے۔ مہمان خود گوشت پکاتے
ہیں۔ روٹی گھر سے دی جاتی ہے۔

بلوچوں کا کھانا پینا

بلوچ لوگ گوشت، گھی، مکھن کھانے
کے بہت شوقین ہیں۔ ہفتے میں
گوشت ضرور کھاتے ہیں جنگلی جانور
پہاڑی بکرا، دنبہ، ہرن کے شکار
کے شوقین ہیں۔ ان کا گوشت
کھاتے ہیں جوار، باجرے کی
روٹی کے بہت شوقین ہیں۔
آج کل چائے کا بہت رواج ہوگیا
ہے۔ کالا پانی اور بارشی پانی پیتے
ہیں۔ سبزی کم کھاتے ہیں۔ سردیوں
میں پرندے یعنی خشک گوشت مہینوں
تک کھاتے ہیں سفر کے دوران آٹے
کو پتھر پر لپیٹ کر پکا کر کھاتے ہیں۔

بلوچ قوم سفر لَڈ بوڑ

اے جہاں سڑکھاں چھے باز دیر بندی
پیاز غ منزلاں کھنّاں معتبراں مڑد
مہنر نانی چھکھا منزل کھنّاں کھرانی
کھاڑانی چھکھا لَڈ بوڑ کھنّاں
پیاز غا تکھا یَغ منزل کھنّاں گیست
میل یک روش سفر کھنّاں لیڑوانی
راہ نے ۔ آہانی بھر شغ خطرائیں ۔

بلوچوں کا سفر اور باربرداری

یہ لوگ سڑکوں سے بہت دور
رہتے ہیں پیدل چلتے ہیں معتبر
لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کرتے
ہیں گدھوں اور بیلوں سے باربرداری
کا کام لیتے ہیں ۔ پیدل تیزی سے
چلتے ہیں ۔ بیس میل یومیہ سفر کرتے
ہیں ۔ اونٹوں کا راہ نہیں ہے ان
کے پھسلنے کا خطرہ ہے ۔

بلوچ قوم جَرّ

بلوچ قوم سوئیس جَراں کھنّاں ۔
بھراجیں جراں کھنّاں ۔ زال دائیں
سوئیس جراں کھنغاں ۔ بُرقہ ہندا
سر لیغ دیم سرادیاں ۔ مڑ سغر چھکا
پٹکا بنداں ۔ اولی زمانہ مزیں پٹکا

بلوچوں کا لباس

بلوچ سفید کپڑے پہنتے ہیں اور
کھلا لباس پہنتے ہیں ۔ عورتیں آج تک
سفید لباس پہنتی ہیں ۔ چادر اوڑھ کر
منہ چھپاتی ہیں ۔ مَرد سر پر پگڑی
باندھتے ہیں ۔ پہلے زمانہ میں بہت

مڑواں لبستاں ۔ وائیں ہندے
ہند یہ مزیں پگا بندغاں ۔ نوخیں
تہذیب بیبا ۔ مزیں ربڑے چپلاں
کھناں ۔ ریشاں ۔ بروتھاں مزیں
ایر کھناں کھمیں آدمی اے وقتا
ریشاں ساغاں ۔

بڑی پگڑی باندھتے تھے آج کل
بھی یہ بڑی پگڑی کہیں کہیں باندھی
جاتی ہے ۔ نئی تہذیب میں ربڑ کی
بڑی چپلیاں پہنتے ہیں ۔ داڑھی
مونچھیں بڑی رکھتے ہیں ۔ کچھ آدمی
آجکل داڑھی منڈاتے ہیں ۔

بلوچانی ہندو نیاز

پہیش زمانہ بلوچ خانہ بدوش ساں
مال مویشی پالس گزارہ کھتش ہوڈھاں
جھگیاں ورشکانی شیرا گزارہ کھتش
اے وقتا تورا اڈاں ہنداں ۔ کھوہ
ہانی نیاوا آں ہندا مال گزارہ بیس
آں ہندا تورا اڈس نشتاں ۔ نی
اے وقتا نیاوا کھرڑے جہاں کوٹھو
مٹاھتو ہند نیاز کھنغاں ۔ بازرواج
تورا و چپگلیانی مال واسطہ جھگیاں
جوڑ تھغاں ۔ جھگی ریم و کھگ شے جوڑنوں ۔

بلوچوں کی رہائش

پہلے زمانہ کے بلوچ خانہ بدوش
تھے ۔ مال مویشی پال کر گزارا کرتے
تھے ۔ غاروں ، درختوں اور جھونپڑوں
کے نیچے گزارا کرتے تھے اب
چٹائی کا خیمہ بنا کر رہتے ہیں پہاڑوں
میں ان کے مال کا جہاں گزر ہوتا
ہے وہیں تورا (خیمہ) لگا کر بیٹھ جاتے
ہیں ۔ اس وقت کئی لوگ پختہ مکان
بنا کر رہتے ہیں زیادہ رواج تورا
اور جھونپڑوں کا ہے مال کے لیئے

گھاس اور لکڑی کی جھونپڑیاں
بناتے ہیں۔

بلوچانی کِھشت کھشار

پہاڑانی نیاداڈغار کھیں نی اسے
مڑباز محنت کناں کوہان کھشان
ڈغار ٹھاہِتاں کِھشت کھشار کناں
دِیر دِیر چھے مٹّی کھرانی چھک
لڈاں کھاراں نِشتیناں کھسائیں
کھسائیں چھرانی دف بند کناں ہورانی
مٹّی بندبی۔ کھرڈوے سالاں پہشتنا
کھشار دِلوخ بی رو ہندیائیں آف
ور کناں۔ ایشاں چھے ڈغاراں
سیراب کناں۔ اوزا سیاہیں
آف نے سورانی آفا چھے ڈغاراں
آباد کناں پھرزہ نالی کناں۔

بلوچوں کی کھیتی باڑی

پہاڑوں میں قابلِ کاشت زمین نہیں۔
لوگ بہت محنت کر کے پتھروں کو
ہٹا کر زمین بناتے اور کاشت کاری
کرتے ہیں۔ دور دور سے مٹی
گدھوں پر لاد کر پتھریلی زمین پر
بچھاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے
نالوں کے منہ پر رکاوٹ ڈال کر
بند بناتے ہیں۔ بارش مٹی رک کر
سالوں کے بعد قابلِ کاشت ہو
جاتی ہے۔ کسی کسی جگہ کالا پانی
(چشمے کا پانی) نکلتا ہے اس سے
زمین سیراب کرتے ہیں جہاں کالا پانی
نہ ہو وہاں پر بارشی پانی سے زمین آباد
ہوتی ہے اور پھر نالی کرتے ہیں۔

بلوچانی مذہب

بلوچ کل مسلمان سُنی، حنفی مذہب کشتے تعلق ایر کھناں خدا اور رسول اچھکھا ایمان داراں ۔ ھمی مذہب نے ۔ نماز ورد شغے پابند آں ۔ قرآن پاک تلاوت باز کھناں ۔ چکاں قرآن شریف سبق لوغاں دیاں ۔ نماز سکھالاں زر والا جہاں حج کھنغاں دَروغ کھے بنداں البتہ دزی شوز اچھے کھناں ۔ پیر پرست باز استاں ۔ وَعدہ پابنداں ۔

بلوچوں کا مذہب

سارے بلوچ مسلمان سنی حنفی ہیں خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں ۔ ان میں کوئی دوسرے مذہب کا نہیں ۔ نماز روزہ کے پابند ہیں قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے ہیں ۔ بچوں کو گھر پر قرآن شریف کا سبق دیتے ہیں ۔ نماز سکھاتے ہیں ۔ امیر لوگ حج بھی کرتے ہیں ۔ جھوٹ کم بولتے ہیں ۔ البتہ چوری بھی کرتے ہیں ۔ پیر پرست بہت زیادہ ہیں اور وعدے کے پابند ہیں ۔

بلوچانی ہتھیار

بلوچ آزاد اں ۔ ایشانی حد نیا لوآ ہتھیارانی آزادے ۔ چھکھینغا توفیق

بلوچوں کے ہتھیار

بلوچ آزاد ہیں ان کی حدود میں ہتھیاروں پر کوئی پابندی نہیں ۔

جنغ سکھاں۔ بازمڑ شکاری استاں
ہر مڑد گرا توفق استیں، زہم بھغر
ہل استاں۔ اے بلوچ پھوادانی نیانواں
رستر الیشانی مالاں وراں۔ اے بلوچ
ڈیہو۔ بھولغ۔ گرکھ، افتار شکار
کھناں۔ توفق مراں۔

بچپن سے بندوق چلانا سیکھتے ہیں
اکثر شکاری ہیں۔ ہر آدمی کے پاس
بندوق ہوتی ہے۔ تلوار۔ کلہاڑی۔
چھرا بھی رکھتے ہیں۔ چونکہ بلوچ
پہاڑوں میں رہتے ہیں (پہاڑی)
جانور ان کے مال کو کھا جاتے ہیں
یہ بلوچ چیتا۔ گیدڑ۔ بھیڑیا اور لگڑ بگڑ
کا بندوق سے شکار کرتے ہیں۔

ضلع ڈیرہ غازیخان نیا بلوچ قوم آغ گوریش

ضلع ڈیرہ غازیخاں میں بلوچوں کی آمد

میر چاکرا خان قلات والی
قلات گو جنگ داسی گڈا چھوزا
لڈسی پھوادہ کوہ سلیمانا چھے سفر کھسی
ابھا شتاں ولید کھوسے پوسٹ
(چوکی) کھلچاس گرا آختا۔ کھڑدے
روشا نشتا۔ اے علاقہ شکار بازا

میر چاکر نے خان قلات والی
قلات سے جنگ کر کے وہاں سے
کوچ کیا۔ پہاڑ کوہ سلیمان کی طرف
سفر کیا۔ شمال کو گیا۔ جب رود کا ہا
چو کی کھلچاس پہنچا۔ کئی دن قیام کیا۔
اس علاقہ میں شکار بہت تھا۔ گوریش

گورشیں نامے بلوچ شکار شوق
چھے وسی سردار چھپے وسی گڈا ہویدا
نشتا۔ من گورچانی چھواں گوریشا
پیدا بیا۔ راج بسیا۔ ایشاں گوریش
پھوانگھے گواجناں۔ اے وقتا گوریشا
مزیں سرڈار خواجہ بخش خان مے لال
گڑھ نندی باز سخی مرڈے۔

نامی ایک بلوچ شکار کے شوق میں
اپنے سردار کے قافلے سے رہ گیا۔
وہاں آباد ہوگیا۔ تمن گورچانی اس
گوریش سے پیدا ہوا۔ منسوب ہوا۔
اس لیئے اس قوم کو گورچانی کہتے
ہیں۔ اس وقت گورچانی قوم کا
بڑا سردار خواجہ بخش خان ہے۔
لعل گڑھ میں رہتا ہے بڑا سخی ہے۔

بلوچ لغاری قوم

میر چاکر چھے کھلچاس لڈھو۔
کھڑدے روشا کھڑڑا (فورٹ مزو)
نشتا۔ ایدا شکار بازا۔ میر چاکر
ابھالڈھو شتا ایدا کلو۔ مزار۔ شاہو
احمدان۔ سمعیل۔ بجر۔ زنگل خانہ
شکار شوق ہویدا نشتغاں۔ میر چاکر
ابھالڈھو نشتا۔ اے ہویدا بسیغاں۔
پھیلیشی زمانہ مے لغاری قوم۔ قوم

بلوچ لغاری قوم

میر چاکر کھلچاس سے روانہ
ہوکر کئی دن کھڑ (فورٹ مزو) میں رہا
یہاں شکار بہت زیادہ تھا۔ میر چاکر
شمال کو چلا گیا۔ اس جگہ کلو۔ مزار
شاہو۔ احمدان۔ اسمٰعیل۔ بجر
اور زنگل شکار کے شوق میں بیٹھ گیے۔
میر چاکر شمال کو چلا گیا۔ یہ یہاں
رہ گیا۔ پہلے زمانہ میں لغاری قوم کو

شکاری گوانجش گڈا گالوارو گرڈتھو لغاری بسیا۔ ایشانی سردار فاروق احمد خان ایں باز سخی اور بہادر زیں مرڈوے اشی ہندمے چوٹی زیریں۔

قوم شکاری کہتے تھے۔ پھر بات بگڑی تو لغاری بن گیا۔ ان کا سردار فاروق احمد خان ہے۔ بہت سخی اور بہادر آدمی ہے۔ ان کا گھر چوٹی زیریں میں ہے۔

بلوچ بزدار قوم

سردار میر چاکر ابھارو غا۔ بھارتی شتو۔ کھڑوے روشانشتا۔ یک بلوچے روغ زاناگڈا میر چاکر لڈھو ابھاشتا گڈا ہوے روغ والیں بلوچ ہویدانشتا۔ چھجروا چھپے ہوے قوم بزدار مشہور بسیا بزنام چھکا ہوئے۔ قوم مشہور بسیا۔ اے قوم سردارے حاجی دوست محمد خان باز سخی و بہادریں مرڈوے۔

بلوچ بزدار قوم

سردار میر چاکر شمال کو جا رہا تھا۔ بھارتی میں جاکر کئی دن بیٹھا۔ ایک بلوچ کا ریوڑ بچے دینے لگا۔ میر چاکر شمال کو چلا گیا۔ ریوڑ والا بلوچ اسی جگہ قیام پذیر رہا۔ اس وقت سے اس قوم کا نام بزدار مشہور ہو گیا۔ بزی کے نام پر یہ قوم مشہور ہوئی۔ ان کا سردار حاجی دوست محمد خاں ہے۔ جو بہت سخی اور بہادر شخص ہے۔

بلوچ کھوسہ قوم

میر چاکر لڈھوا بھاروغا
کوٹ کھمبنی کھڑوے روشاں نشتا۔
کھونیغ نامے بلوچ ہویذا سر آختا
ہوایئں نام چکا بلوچ کھوسہ مشہور بسیا۔
سردار ذوالفقار علی خاں ئیں۔

بلوچ کھوسہ قوم

میر چاکر شمال کو جا رہا تھا کئی
دن کوٹ کھمبنی میں رہا۔ وہاں کھونیغ
نامی شخص بلوچ رہ گیا۔ اس کا
نام کھوسہ مشہور ہو گیا۔ ان کا سردار
ذوالفقار علی خاں ہے۔

بلوچ قیصرانی قوم

میر چاکر لڈھوا بھاروغا
قیصرانی ڈیہہ سر بھرا ہنغ کھڑ دے
روشاں نشتا۔ گڈا لڈھوا بھاشتا
ہویذا قیصر نادیں بلوچ سر آختا گڈا
ہوئے قوم قیصر نام چکا مشہور بسیا
قیصرانی سردار حاجی منظور خاں باز سخی
اور بہادریں مرڈے میر چاکر لڈھو
ابھا شتا

بلوچ قیصرانی قوم

میر چاکر شمال کو جا رہا تھا۔
قیصرانی کے علاقہ سر بھرا ہنغ میں کئی
دن رہا پھر شمال کو چلا گیا وہاں قیصر نامی
بلوچ رہ گیا۔ پھر یہ قوم قیصر کے نام
پر مشہور ہوئی۔

قیصرانی سردار حاجی منظور خاں
بہت سخی اور بہادر مرد ہے میر چاکر
شمال کو چلا گیا۔

بلوچ قوم مزاری

سیوی لڈھو میر چاکر کھڑ دے
روشا چوکی بھنڈ و والہ پھوادا آختو نشتا۔
مزار خاں ہو دے وطناں سر آختا۔
مزاری قوم مزار خان چھے مشہور
بیا۔ اے قوم سردار بلغ
شیر خان بازیں سخی اور بہادریں مرڑدے۔

بلوچ قوم مزاری

سیوی سے کوچ کر کے میر چاکر
کئی دن چوکی بھنڈ والہ پہاڑ میں
بیٹھا رہا۔ مزار خاں اس وطن میں
رہ گیا۔ مزاری قوم مزار خاں سے
مشہور ہوئی۔ اس قوم کا سردار
بلغ شیر خان ہے۔ جو کہ بہت سخی
اور بہادر آدمی ہے۔

بلوچ قوم درلیشک

میر چاکر ہوئے پھوادا سلیمان
لڈھو ابھار و غا۔ درلیشک مرڑ نامی
ہوئیندا سر آختا۔ درلیشک چھے
قوم درلیشک مشہور بیا۔

بلوچ قوم درلیشک

میر چاکر کوہ سلیمان پر سے
شمال کو جا رہا تھا۔ درلیشک نامی
آدمی اس جگہ رہ گیا۔ درلیشک
قوم کا نام اسی درلیشک سے مشہور
ہوا۔

بلوچ قوم لُنڈ


میر چاکر لڈ ہوا بجار وغا
کھڑدے روشا سوری خان شتا
لنڈو نامے مرڈے ہویدا سر آختا۔
چھواں لنڈو آچھے لنڈ قوم
پیدا بیا۔ اے قوم سردار غلام شبیر خان
بھڑیں مرڈے استیں۔

بلوچ قوم لُنڈ

میر چاکر شمال کی طرف جا
رہا تھا۔ کئی دن درّہ سوری میں قیام
کیا۔ یہاں پر لنڈو نامی ایک آدمی
رہ گیا۔ اسی لنڈو سے لنڈ قوم
پیدا ہوئی۔ اس قوم کا سردار
غلام شبیر خان ہے۔

سیّد سخی سرور سائیں　　سیّد سخی سرور صاحب

سخی سرور سائیں اصل نام
سید سلطان احمد دے ایں
باز سخی بزرگ آں ہوئے واسطہ
سخی سرور مشہور لبسیا۔ ایندے
تعلق خاندان گو رسول کریمؐ
خاندان رلی اے دین تبلیغ
واسطہ مقام لہڑ دفا آختونشا۔
ہویدا وسی اسلام کار شروع
کھسی۔ بلوچانی لے
پیریں۔ بلوچ ایشا باز مناں
وودی زنید غا بلوچاں چشتغا
فیض حاصل کھسا سخی سرور
سائیں پٹھان قوم آدمیاں
شہید کھسا۔ اے روایت
مطابق پٹھان قوم قافلہ آختو
اِنید انجتا و دسہ روشنا ہویذا



سخی سرور صاحب کا اصل نام
سید سلطان احمد ہے۔
بہت بزرگ ہستی تھے اور
بہت سخی تھے اسی لئے
سخی سرور مشہور ہوئے ان
کے خاندان کا تعلق رسولِ
کریمؐ کے خاندان سے جا
ملتا ہے۔ آپ نے دین
کی تبلیغ کے لئے لہڑ
کے مقام پر ڈیرہ لگایا اور
یہاں سے اسلام کا کام
جاری کیا۔ بلوچوں کے پیر
ہیں۔ بلوچ ان کو بہت
مانتے ہیں۔ جب تک یہ
لوگ زندہ ہیں فیض حاصل
کرتے رہیں گے سخی سرور

بلیسا۔ گڈا قافلہ لڈھو رَو غا آں
وِلید قافلہ رَواں بلیسا۔ سخی سرور سائیں
وسی خود خیالا کندھے چھکا
نشتاواں کندھ گو سخی سرور سائیں
پچبیا ہوواں قافلہ دنبار رواں گفتا۔
گڈا پٹھان تہیر گواں جو سائیں
شہید کھسا ہو وے ہند سخی سرور
نام چھکا مشہور بیا۔

صاحب کو پٹھانوں نے شہید کیا۔
اور روایت کے مطابق پٹھان قوم
کا قافلہ آیا۔ دو تین دن یہاں رہے
پھر قافلہ تیار ہو کر آگے کی طرف
روانہ ہوا۔ سخی سرور صاحب اپنے
خیال میں مست دیوار پر بیٹھے تھے
وہ دیوار سمیت سخی سرور صاحب
قافلے کے پیچھے چلنے لگ گئی۔
پھر پٹھان نے ایک تیر مارا جس سے
آپ شہید ہو گئے۔ اب یہ جگہ
سخی سرور صاحب کے نام پر مشہور
ہے۔

سخی شیرو بلوچ

سخی تربت دارا گل کھوہ چھکا ایں
تمن گورشیش نیاما ایں اے سخی
سہری بچھیں سخی سہری تربت بڑزا
بلوچستان نیاما ایں۔ سخی شیرو گوڈوبے

سخی شیرو بلوچ

سخی کا مزار دراگل پہاڑ کے اوپر
تمن گورچانی کے اندر ہے۔ یہ
سخی سہری کا بیٹا ہے۔ سخی سہری کا
مزار بلوچستان میں ہے۔ سخی شیرو

بچھا۔ یاریا۔ ایں ڈوئیں کمسانیغایوکھش
سخی سہریا ڈوب چھور دا گوشتا
تھوشیر دا آگو لیومخاں۔ روشے لے
اڈری گِڈا اتھوچھَو کھنے۔ گڈا ڈوب
چھورو گشتاماں وی یارا پچھی آں
اڈرہاں یے۔ روشا سخی سہری گو
خاں چھار تیو لوغا منا غا دیسی۔ سخی شیرد
اڈر تھوروغیں ڈوب چھورو گو وسی
سرنندا بنا در کھسغیں گڈا سخی
سہری جذبہ کھسو گوشتا اور ڈوب
بچھ۔ دوَب چھور دا اڈر تھا ہو واں
گورو دے اڈر تھا۔ سخی سہریا چھٹ
جسوزا اسغیں گورخ پھازا گفتا
گوشتی بیگا بانگاہ چھے جواب دیاں
شیرو سخی گو وسی دوَب چھور دا
گو وسی گور دا ورا گل پھوا دچھکا ایر
کھنتا ہوزا اباد جیا۔ ہویذا افوت
بسیا۔ ہو دے کھوہ چھکا سخی شیر دے
مزار موجود ے۔ بار جہاں

کی مراسی کے لڑکے سے دوستی تھی
دونوں بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے
سخی سہری نے مراسی کے لڑکے
سے کہا تم شیرو کے ساتھ نہ کھیلو۔
یہ کسی دن اڑ جائے گا تم کیا کرد
گے۔ مراسی کے لڑکے نے کہا
مَیں اپنے یار کے ہمراہ اڑوں گا۔
ایک دن سخی سہری گائیں چرا کر
گھر آرہا تھا دیکھا سخی شیرو اڑا جا
رہا ہے۔ مراسی کا لڑکا اپنے طنبورے
کے ساتھ پیچھے دوڑ رہا ہے۔ پھر
سخی سہری کو جوش آیا کہا۔ اڑ جا
مرای کے بچے۔ مراسی کا بچہ
اڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ساری
گائیں اڑنے لگیں۔ سخی سہریا نے
جلدی سے موٹی گائے کے پیر کو
پکڑ کر کہا۔ شام کو گھر والی کو کیا
جواب دوں گا۔ سخی شیرو۔ مراسی کا
لڑکا اور ساری گائیں ورا گل پہاڑ

فیضیاب بنڑیں۔

پر اترے۔ وہاں آباد ہوئے پھر وہاں وفات پائی۔ اسی پہاڑ میں سخی شیرد کا مزار موجود ہے بیشمار لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔

سخی بور بخش بلوچ

سخی بور بخش مزار کھانڑ لہڑ دفاسے پوسٹ ہڑنڈ علاقہ نیاویں۔ سخی اصلی نام بور بخش نیئں۔ باز سخی آدمی ایا۔ یک روشا وسی مادیانڑ چھکا چڑے سغاد وغا یک سوالی آختا گوشتی سخی مناں وسی بورا بخش دے۔ سخی چھے وسی بورا ایر کھنتا۔ گڈا بور سواں سوالی غار داسی۔

پھولانکے سخی بور بخش نام چھکا مشہور بیا۔ سخی مزار چھکا ہر روشں پھنڈرانی کھوشیں۔

سخی بور بخش بلوچ

سخی بور بخش کا مزار کھانڑ رود کے دہانے پر ہڑنڈ کے علاقہ میں ہے سخی کا اصلی نام بور بخش نہیں۔ بہت سخی آدمی تھا۔ ایک دن اپنی گھوڑی پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ ایک سوالی آیا اور کہا اے سخی مجھے اپنی بور (گھوڑی) بخش دے۔ سخی اپنی گھوڑی سے اترا اور وہ گھوڑی سوالی کو دے دی۔

اس وجہ سے اس کا نام بور بخش مشہور ہو گیا سخی کے مزار پر ہر روز خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔

سخی مانڑا بلوچ

سخی مانڑا بلوچ فورٹ منرو
علاقہ گا گل تھل گریں۔ سخی مانڑا وسی
زندگی جہان بھلائی واسطہ گذارتا۔
سخی مانڑا اولاد وایئں موجودیں آں
موتار شہوانی گواجناں شہوانی مانڑا
سواراں توپک بند کھناں۔ یک
روایت مطابق یک بیمارے فقیر
سخی مانڑا گرا آخت اشفا داد دیسی
اگر خود وسی ہوے بیمار ہندا قربان
بے۔ بیمار بچی ناں۔ بیمار بچی ناں
بانگاہ سخی مانڑا بزے کھشتو دعا لوٹھا
یا اللہ مناں ہوئے شخص ہندا
کھش۔ ایشا بچائیں۔ خیراتا پھدا
کھار چھہ۔ ستی کھار چھہ آختو گردو
رو کھنتا مزیں سنگے چھکا ہویذا انگ
چھکا نشاں موجودے بز سنگر کھرغا

سخی مانڑا بلوچ

سخی مانڑا کا مزار فورٹ منرو
کے علاقہ گاگل تھل میں ہے۔ سخی مانڑا
نے اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی میں
گزاری۔ سخی مانڑا کی اولاد اب
تک موجود ہے۔ اس قوم کو شہوانی
کہتے ہیں۔ شہوانی مانڑا کو بلاتے
ہیں۔ بندوق بند ہو جاتے ہیں
ایک روایت کے مطابق ایک
بیمار فقیر سخی مانڑا کے پاس آیا۔
رات کو سخی نے خواب میں دیکھا
کہ اگر خود بیمار کی جگہ قربان ہوتے
ہو تو بیمار بچ جائے گا۔ ورنہ نہیں
بچے گا۔ صبح سخی مانڑا نے ایک
بکرا ذبح کر کے دعا مانگی۔ یا اللہ
مجھے اس شخص کی جگہ مار اور اس
کو بچالے۔ خیرات کر کے چھرا پھینکا

اسمان پھلوائی سنگر اشتو سفید
آف وفا کھنتا۔ اوزادے نشان موجودیں
سخی مانڑا فقیر دربار اہروقت
پھنڈرائی کھوشیں منت اسلامی
بازکھاں۔

اور سری بھی پھینکی۔ پھر اگڑ دوڑ دویں
گرا۔ ایک بڑے پتھر پر لگا۔ اس
پتھر پر نشان موجود ہے۔ بکرے
کی سری اوپر پھینکی بارش ہونے لگی
اس کا نشان بھی موجود ہے سخی مانڑا
کے دربار پر ہر وقت خیرات ہوتی
ہے اور زائرین کا مجمع لگا رہتا ہے۔

سخی بیڑو بلوچ

سخی بیڑو مزار راکھی منہ علاقہ
بھرگڑ بنیادیں۔ بیڑو باز فقیریں مڑدیا
یک روایت مطابق بیڑو لڈ ہو
صوبہ سندھ ضلع دادو آ اشتو
نشتا۔ یک روشا بیڑو فقیر ما دن ہواں
ہندسے مڑدے کھشارا اشتو
کھنتا۔ آہاں ما دن لبتہ بیڑو ہواں
ملکہ والیں مڑدا گراشتا۔ منی ماڑ
نادے۔ آہیا سخی بیڑوا رہور کھشتغا

سخی بیڑو بلوچ

سخی بیڑو کا مزار راکھی منہ کے
علاقہ بھرگڑ میں ہے۔ بیڑو بہت فقیر
بزرگ تھا۔ ایک روایت کے مطابق
بیڑو صوبہ سندھ میں ضلع دادو کی
طرف چلا گیا۔ وہیں رہ گیا۔ ایک
دن بیڑو کی گھوڑی کسی کے کھیت
میں چلی گئی۔ کھیت والے نے
گھوڑی باندھ لی۔ بیڑو اس کے
پاس گیا کہا میری گھوڑی دے دے

بیڑو بگھا لوغا آختا آہانی حق نیا ما بد
دعائی کھسی۔ آہانی تنا ہیں آف گاج
والائیں بند مبیوشتا۔ اولا ہواں
لوکا ہوا آفا ملکھ آف داسیں مہنیایا
آف بند لبیا کھیا داد لیبا شئے
آف ہوئے ماذن والائیں مڑدا بند
کھسا ہواں جہاں مچھ لبیبو سخی بیڑو
گرا آختا۔ سخی مجبور کھیش۔ سخی وس
گو ہوا ہا پچیبا شتا ہو ددا آف
خشک لبیا۔ دعا لوٹھی۔ خدائی قدرت
آف ور کھنتا۔ سخی سرا بیسا آف پچھے
دنبا۔ لہڑا موڑا ستا۔ رابھے
گنڈرا چڑس۔ سخی ہواں چاڑلیا چڑغا
آف پچھے دنبائی آف ہواں
چاڑی چڑھی ستری بن ایر کھنی سخی
شہید لبیا۔

انہوں نے سخی بیڑو کو برا بھلا کہا بیڑو
شام کو گھر آیا ان کے حق میں بددعا
کی ان کا گاجے والا کالا پانی بند
ہو گیا وہ لوگ اس پانی سے فصل
پلاتے تھے۔ ایک ماہ تک پانی
بند رہا۔ ایک آدمی نے خواب میں
دیکھا کہ تمہارا پانی گھوڑی والے نے
بند کیا ہے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر
سخی بیڑو کے پاس آئے۔ سخی کو
مجبور کیا۔ سخی خود ان کے ہمراہ گیا۔
جس جگہ پانی خشک تھا دعا کی۔
خدا کی قدرت سے پانی نکل آیا۔
سخی آگے اور پانی اس کے پیچھے۔
نالے کو موڑ تھا۔ راستہ اوپر
چڑھتا تھا۔ سخی چڑھائی چڑھنے لگا۔
پانی بھی اس کے پیچھے اوپر چڑھنے
لگا۔ پانی اب تک وہ چڑھائی چڑھ
کر نیچے اترتا ہے۔ سخی شہید
ہوا۔

لطیفہ

میر چاکر شفا کھرڈو ببیغیں۔
کلو رند بلوچ نزان تھوڈا ابرغ گرغیں
کلو شفا ہنزا ناریوائی سٹغا
کھرڈو ببیغیں دلیسی نزانے تھوڈ
بر سیغیں۔ سہی کھسی۔ نہران تھوڈ
سردار میر چاکر بٹ واسطہ برسو
گفتا کلو روغ سردار میر چاکر ماذن
دنبا برغ گڑیں۔ باڈگاہ میر چاکر
کھرڈو بیسغیں۔ کلو آگشتغیں
کلو نہران پھچے کھندنیں۔ کلو آ
سردار جواب داسا۔ سردار بانکا
برہنغا گھندنیں۔

لطیفہ

میر چاکر ایک رات کو
اٹھا۔ کلو رند بلوچ کے گھوڑے کا
ہونٹ کاٹ لیا۔ کلو رات کو
اپنے گھوڑے کو گھاس ڈالنے
اٹھا۔ دیکھا کہ گھوڑے کا ہونٹ
کٹا ہوا ہے۔ وہ جان گیا کہ میر چاکر
نے یہ کام کیا ہوگا۔ کلو نے
میر چاکر کی گھوڑی کی دم کاٹ
دی۔ صبح میر چاکر اٹھا کلو سے
کہنے لگا۔ کلو گھوڑا کیوں ہنس
رہا ہے۔

کلو نے سردار کو جواب دیا
کہ وہ سردار کی گھوڑی کو ننگا
دیکھ رہا ہے۔

لطیفہ

دو بلوچ سندھا ئیتا روغا۔ آڑتھاں زیرغا گوشتیش۔ نعنے پھشوں یک ہندیا مناغا کھوہ چلائیسغا یکے گشغیں تھوگا دھیا گیرڑ ماں نصار دفا آڑتھاں ملو آں آہیا کھوہ گیرڑ ساکل لوٹانی آف نصار دناشتو درکھنا۔ آڑتھ آفا لوڑسغاں لیرتھغاں گڈی کھوہا گیرڑ غلیں گوں اں جہی۔ براکھنیا پھینگو کھنغنے۔ آڑتھ گل پورا بڑتھا۔ گوشغیں ہوئے لہٹر زوکاناں اسکغ ساما گوشتا تھرا دلیورا بڑتھا۔

لطیفہ

دو بلوچ سندھ میں گئے آٹا اٹھایا تا کہ کہیں روٹی پکائیں۔ ایک جگہ پہنچے کنواں کھڑا تھا ایک نے کہا تم گادھی گیرڑ دیں نصار کے منہ پر آٹا گوندھتا ہوں دوسرے نے کنواں چلایا سارے لوٹوں کا پانی نصار کے منہ پر جا نکلا۔ آٹا پانی میں بہہ گیا۔ دوسرا کنواں چلا رہا تھا اس کو آواز دی خواہ مخواہ کنواں چلا رہے ہو۔ آٹا سارا بہہ گیا ہے۔ دوسرے نے کہا شکر ہے آٹا بہہ گیا ہے پانی کی آواز سے مجھے خدشہ ہوا کہ وہ تمہیں بھی بہا نہ لے گیا ہو۔

لطیفہ

دو مڑا اصلاح کھسا
مالی ڈھگالفی باغ پٹغی۔ یک
سہریں جرے زیرغاں آدیلا باغ
نزہی شتغاں۔ یک مڑ دلیا سہریں
جر چکا کھسا۔ مالی آچھے دیر دلوار
پہغا دا ہواں سہریں جر والیں
مڑ نندی۔ گڈہی مالی گرا د مالی
آرسٹی ہواں۔ مڑ دم دراہ نیں
تعویزے لکھ دے۔ مالی تویزے
لکھغا وسی کو ٹھو اشتا۔ اے مڑ
باغ پٹغا شروح بیسا۔ مالی پھاں
کو ٹھو ٹھنگا گندغا۔ اے مڑدا باغ
پٹوسی ہواں سنگتی نیغا سٹسغاں
مالی ہتری کھئے ہواں مڑدا گوشتی
ہتھومیٔ باغ پٹسا۔ مڑا گشتی ماں
چھے پٹساں ناں۔ مالی گشتی ہتھومیٔ

لطیفہ

دو آدمیوں نے مشورہ کیا
کہ مالی کو چکر دے کر پھل
توڑتے ہیں۔ ایک سرخ کپڑا اٹھایا
جب باغ کے قریب گئے ایک
نے سرخ کپڑا اوڑھ لیا۔ مالی
سے تھوڑا دور دیوار کے ساتھ
سرخ کپڑے والا مرد بیٹھ گیا۔
دوسرا آدمی مالی کے پاس گیا اور
کہا کہ وہ آدمی بیمار ہے تعویز لکھ
دے۔ مالی تعویز لکھنے کیلئے
اپنے کمرہ میں چلا گیا۔ اس آدمی
نے پھل توڑنے شروع کر دیئے
اور ساتھی کی طرف پھینک دیئے
مالی کمرے کے سوراخ سے یہ
چوری دیکھ رہا تھا۔ کہ وہ شخص
پھل توڑ رہا ہے۔ مالی واپس آیا۔

باغ دہ دانہ پٹے ہوئے مڑ گشتی
ماں گڑ سغ چی نیاں گنزتیئے
دلیوار دالیں مڑ سغیں۔ مالی گشتی
ہواں زاے نئیں۔ مڑ گشتی اولا
مڑ دلیسا تھئی باغاں زال کھسا
کل نے۔

اس نے آدمی کو کہا کہ تم نے
میرے باغ کا پھل توڑا ہے
اس نے کہا میں نے نہیں توڑا۔
مالی نے کہا تم نے دس پھل توڑے
ہیں اس نے کہا میں نے گنے
نہیں۔ گنتی دلیوار والا آدمی جانتا
ہے۔ مالی نے پوچھا وہ عورت
نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلے
مرد تھا۔ آپ کے والوں نے
عورت بنا دیا ہو تو پتہ نہیں۔

پھشی زمانے یک بلوچ بادشاہ فیصلہ

پہلے زمانے کے ایک بلوچ حکمران کا فیصلہ

یک مڑدے ماون دنب
یک مڑدے برسو گفتا ہواں ماون
والا مڑد بادشاہ گورو دھان
داسا۔ بادشاہ گشتی مئی ماونِ

ایک آدمی نے ایک دوسرے
آدمی کی گھوڑی کی دم کاٹ لی۔
گھوڑی والے آدمی نے بادشاہ
سے فریاد کی کہ فلاں شخص نے میری

دنب یک مڑد برسو گفتا۔ بادشہ کوتوال وبیدا اسا ہواں۔ مڑد پکڑ مناں پیش کھن۔ کوتوال مڑآر ڈھو بادشاہ آر پیش کھوسا۔ بادشاہ پھول کھسا۔ اے مڑ دھقو کھئے مادن دنب برسا۔ ہواں مڑ گشتا ہاں بادشاہ ماں دنب برسوں۔ بادشاہ گشتا۔ چھے واسطہ برسے۔ ہواں مڑد گشتی مادن مئی ملکھ پھلوا دھیانا۔ بادشاہ گشتی تھراجرم کھنون۔ ہواں مڑد گشتا۔ ہاں بادشاہ گشتی تھئی چکا جرم ہوشیں ہووے مادنا برداراں وختا ہووے مادن دنب دارہ لوزی ہووے مادن تھرادارغی۔ ہواں وختا ہووے مادن دنب دراہ بی ہووے مادنا۔ مئی دربار اپیش کھنے۔ مڑد اگشتا شکریہ۔

گھوڑی کی دم کاٹ لی ہے بادشاہ نے کوتوال کو بھیجا۔ اس مرد کو پکڑ کر ہمارے پیش کرو۔ کوتوال آدمی کو لایا۔ بادشاہ کے پیش کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا۔ کیا تم نے گھوڑی کی دم کاٹی ہے ؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں نے کاٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ کیوں کاٹی ہے؟ آدمی نے کہا کہ گھوڑی میری فصل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں سزا دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں یہ سزا ہے کہ جب تک گھوڑی کی دم ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ گھوڑی تمہارے پاس رہے گی۔ جب اس کی دم پہلے کی طرح سلامت ہو جائے تو اسے میرے دربار میں پیش کریں۔ اس آدمی نے کہا شکریہ۔

حصّهٔ نظم

تعریف

خان محمد کلوئی

تعریف بازان الہی
پیدا کسے کل امتی
محمد رسول مے آخری
آنک تھئ کلمہ پڑھی
دوزخیں چاہاں ردی
وسیلہ کلام اللہ کسی
گوھر کنا بھلا کسی
دروغا دیرا استی
چغلا آخی مٹسی
اوزا دوزخے تھکیں چری
وسیلہ کھے مے ہوزا بڑی
کھے امتی کل ٹول بی
چھے ہر کسا بھول بی
کلاں چھے پھیشا مے نبی

اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف ہے۔
جس نے تمام امت کو پیدا کیا۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم آخری رسول ہیں۔
جس نے ان کا کلمہ پڑھا۔
دوزخ اس پر حرام ہو گئی۔
اللہ کے کلام کو وسیلہ بنا کر۔
ہر شخص سے بھلائی فرمائی۔
جھوٹ کو ختم کر دیا۔
چغل خوری کو مٹا دیا۔
وہاں دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے۔
قیامت کے دن ہمارا وسیلہ ہیں۔
جب حشر کا دن ہو گا۔
ہر ایک کا حساب ہو گا۔
سب سے پہلے ہمارے نبی۔

کو اللہ جھگڑی
میں امتی تھو بشکغی
اللہ وسی فرشتاں گشتی
ہر نگاں مے دوست گشتی
مناں کل لاڈ لیتے منغی
بہشتا تھے تخت سری
کھرغا پھاں آزماں اڑری
کلیں نبی یاں تھی زیارتی

اللہ سے سفارش کریں گے۔
میری امت کو بخش دیجئے۔
اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا۔
میرے دوست کے فرمان پر عمل کرو۔
میں ان کی ہر بات کو مانتا ہوں۔
جس کا بہشت میں اعلےٰ مقام ہے۔
ان کا سب سے اونچا درجہ ہوگا۔
سب نبی آپ کی زیارت کریں گے۔

نعت

مومن بزدار

مناں یا محمدؐ محبت یہ تھیغیں
محبت یہ تھیغیں عنایت یہ تھیغیں
سَوَب خلقے ہر شہے کل جہانے
تھوسے یا محمدؐ اے عظمت یہ تھیغیں
اے کلیں جہانا زمیں آزمانا
خدائے خدائی نبوت یہ تھیغیں
پچھے اشتو بھرا خود ختمیں نبوت
اے ہر دو جہانے حکومت یہ تھیغیں
عمل مے بدنیوں بدیں بدتر نیوں
زنگ مے نہ پھٹے اے برکت یہ تھیغیں
گنہ گار و بدکار کل تھئیں گلاؤں !
تھئیں کھے چیٹ بھنیش کہ امت یہ تھیغیں
شہ اشتو کہ دیراں بدن بے مزائیں
نے مرض نیں جانا فرقت یہ تھیغیں
اے مومن غریب بھرا باز باھرت
کہ میزان روشے شفاعت یہ تھیغیں

مجھے یا محمدؐ آپ سے پیار ہے۔
آپ سے پیار آپ کی عنایت ہے۔
آپ کے سبب سے دنیا قائم ہوئی۔
یا رسول اللہؐ عظمت آپؐ کو زیبا ہے۔
کل جہاں زمین اور آسمان میں۔
خدا کی خدائی اور آپ کی نبوت ہے۔
تیرے بعد نبوت ختم ہو گئی۔
دونوں جہان پر آپؐ کی حکومت ہے۔
ہمارے عمل بد سے بھی بدتر ہیں۔
آپکی برکت سے ہمارے رنگ مسخ نہیں ہوتے۔
گنہ گار اور بدکار سب تیرے ذمے ہیں۔
آپ کے سوا آپکی امت کا نگہبان کوئی نہیں۔
شاہا تیرے ہجر میں بے چین ہوں۔
آپکی فرقت کے سوا مجھے کوئی بیماری نہیں۔
غریب مومن آپؐ کی حفاظت کا طالب ہے،
کیوں کہ قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے۔

صدّیق اکبرؓ

خان محمد کلویؒ

تعریف بازیں صدیق تھیَ
کلاں چھے پھیشا مسلمان بی
گو رسول کریما ہجرت کھسی
غارِ ثور شے قیام بی
سیاہ مار چھے کھُڈور کھغی
پھَاز مبارک ڈنگسی
رسولِ کریمؐ چھے داداہا غابی
لب مبارک لائسی
دے قیامت روشا بیمار نوی
چھے کلیں صحاباں چھے استا سخی

حضرت ابوبکر صدیق کی بہت تعریف ہے
جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔
رسولِ پاکؐ کے ساتھ ہجرت کی۔
اور غارِ ثور میں اکٹھے قیام کی۔
سوراخ سے کالا سانپ نکلا۔
اس نے پاؤں مبارک کو ڈس لیا۔
رسولِ کریمؐ جب نیند سے بیدار ہوئے۔
انہوں نے لب مبارک لگائی۔
فرمایا قیامت میں آپکو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
آپ تمام صحابہ کرامؓ سے زیادہ سخی تھے

فاروق اعظم رضؓ

خان محمد کلوئی

ڏوئي خليفه عمر خليل
رعب ٿرا بازا استه جليل
ڪليں ڪافراں ٿهڙ ساٿئي
داں قيامت انصاف وحڪم ٿئي
چهر بدلت تهو شف ششفي
پهرسے مدينه گلي گلي
تهو حال معلوم کهيں دلي
نے کهسے فرق بچهه ابھسي
بهشت ٿئي درجه سري
اوزا ملاں بهرا حور پري
ٿئي خوشبوئيں گوراغ جهوٽالي
رحمت خدائي ٿئي جهڪار ششي

آپ دوسرے خلیفہ تھے۔
بڑے رعب و جلال والے تھے۔
سب کافر آپ سے ڈرتے تھے۔
آپ کا انصاف تا قیامت قائم رہیگا۔
آپ رات کو بھیس بدل کر۔
مدینہ کی گلی گلی میں پھرتے تھے۔
آپ لوگوں کا دلی حال معلوم کرتے تھے۔
انصاف میں کسی سے رعایت نہیں کرتے تھے۔
بہشت میں آپ کا اعلیٰ درجہ ہے۔
وہاں آپ کو حوریں ملیں گی۔
خوشبوؤں میں آپ کا پنگھوڑا ہوگا۔
آپ پر اللہ کی رحمت برسے گی

عثمان غنیؓ

خان محمد کلوٹی

سوئمی خلیفہ عثمان غنیؓ
ذو النّورین لقب تھئی
مسجد نبوی دست ٹھاسی
ہزاراں غلام آزاد کھسئی
تعریف تھئی بازاست سخی
دمی جہانے لوٹ تھرابی
اوزا بلاں تھرا حور پڑی
بہشت نیاما تھئی درجہ سری

آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔
آپ کا لقب ذوالنورین تھا
مسجدِ نبوی بنوائی۔
ہزاروں غلام آزاد فرمائے۔
آپ بہت ہی سخی تھے۔
جب آپ اگلے جہان میں جائیں گے۔
وہاں آپ کو حوریں ملیں گی۔
بہشت میں آپ کا بلند مقام ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ رضؓ

خان محمد کلوئی

چارمی خلیفہ حضرت علیؓ
کلیں کافر ختم کھسی
خیبر قلعہ فتح کیسی
دُلدل خوناں تا رسی
وعدہ رسولؐ وسپال سپی
تھو فاطمہ زہراؓ چھے عرش ملی
رسولِ پاکؐ کو آخنتا وحی
تھے لوغا بلقا نور نبیؐ
چھاں نوراں دو لعل پیدا بی
حسنؓ حسینؓ فرزند تھتی
آخر نیاما نثار شہادت ملی
شے دشمن ادزا آسا شتی

چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ
جنہوں نے تمام کافر ختم کیے۔
خیبر کا قلعہ فتح کیا۔
آپ کا گھوڑا خون میں تیرا۔
رسولؐ کا وعدہ ایفا کیا۔
فاطمۃ الزہراؓ انہیں عرش سے ملیں۔
رسول پاکؐ کو پہلے وحی آئی۔
آپ کے گھر نبیؐ کا نور تھا۔
اس نور سے دو لعل پیدا ہوئے۔
اور ان کے فرزند حسنؓ حسینؓ تھے۔
آخر میں آپ کو شہادت ملی۔
قیامت میں آپکے دشمن دوزخ میں
جائیں گے۔

پند

دفترے کمار اں ماں نوخیں کھسوے چھیڑاں قرآنی
مَیں ایک ذکر شروع کر کے قرآن کا کچھ حال سناؤں گا۔
آتکو روحا خیاے بیٹ مولا مہربانی
یہ خیال اللہ کی مہربانی سے میرے دل میں آیا ہے۔
گال مسلاؤں کتابی بل نغوشی عشتمانی
یہ کتابی مسلے ہیں تاکہ لوگ انہیں سنیں۔
ار عملے بیٹ گوشا فائدائیں شے سجہانی
اگر آپ سے کوئی نیک عمل ہو تو آپ دوستوں کا فائدہ ہے۔
الغی آخر روغی چھیار روشیں زندگانی
یہ دنیا آخر چھوڑ جانا ہے۔ زندگی صرف چار دن کی ہے
سملاں زیرے وشیغاں تھوشفے بی آنجہانی
کچھ توشہ ساتھ لے تاکہ اگلے جہان میں کام آئے۔
وخت تھیئں کھڑدے ہوئیں گا لتے بچھوں جوانی
فائدہ اٹھانے کا وقت ہے کیوں جوانی کو ضائع کر رہے ہو،
نفس خوشیامخنے ایت کھیڈوں احمقانی
نفس کی خواہش پر نہ چل یہ احمقوں کا کھیل ہے۔

براس مَیں گالاں نغوشے بشکنے سِینگھا سرائی
بھائیو! میری بات سنو تا کہ بخشے جاوَ۔
چھے کتاباں لکھسغیں چھے خیالیں عالمانی
کتابوں میں کیا لکھا ہے اُور علماءً کا کیا خیال ہے۔
اندرا دروہا محننے ٹھیک نئیں دردا ولانی
اپنے باطن کو صاف رکھو دل میں بغض رکھنا ٹھیک نہیں
ہر کھسی لجاں متکے بو نتہ تونڑیں دشمنانی
کسی کی برائی مت کرو خواہ وہ دشمن ہو۔
دروغ دِگہ بے نفاوں کار ثوں ایں لنڈرانی
جھوٹ اُور گِلہ بے سود ہے یہ غنڈوں کا کام ہے
نماز پڑھیں پنچیں لوا شاں یا تہجد ئیں شفاغی
پانچ وقت نماز پڑھو اُور رات کو تہجد پڑھو۔
گو دلا کھیش زکاتا بیث چِنتا روشغانی
زکوٰۃ شوق سے دیا کرو اور روزے کا بھی فکر کرو۔
وِرد کماں حرف قرآنا اے عادتیں نیکیں مڑانی
قرآن کا وِرد کماؤ جو نیک لوگوں کی عادت ہے۔
تارک الدنیا کر بیش نہ تھو کھشیں رخ جنگلانی۔
دنیا چھوڑ کر جنگلوں کا رخ اختیار نہ کرو۔
دفسغا فرش زمینے تھئی لحاف آسمانی

تیرے سونے کیلئے زمین کا فرش اور آسمان کالحاف ہے۔
تھو کھشیں ربّ عبادت اسے عملوں صادقانی
اللہ کی عبادت کرو جو سچے لوگوں کا کام ہے۔
لاٹھی شیطان دُنبا کار نیئں ہر چھور وانی
شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے جس سے بچنا ہرایک کا کام نہیں
کل ہماں روشا کھیفشو حکمے ناگہانی۔
پتہ اس دن چلے گا جب حکم ناگہانی آئے گا۔
فرشتغے کھیت سغرا انج بی روح روحانی
فرشتہ اچانک سر پر کھڑا ہو کر جان جسم سے نکالے گا۔
اڈری کھرغا پیچھے عرشادت بروشتھی پاسبانی
پھر تیری روح عرش کی طرف جائے گی۔
بی ہموزا چند سالہ لیکھوا بیسغانیانی
پھر اس جگہ کچھ سال تک تیرا حساب ہوگا۔
زیرغی میّت برغی مچھ بوں سینگھا دلانی
تیرے رشتے دار تیری میّت کو اٹھا کر لیجائیں گے
غسلا دیو سھتی ہموزا کھیت ملّا مسجدانی
غسل دینے کے لیئے اس جگہ مسجد کا مولوی آئے گا۔
نے ملوں لٹھ جوائیں نے ملوں گز ململانی
نہ تجھے اچھا لٹھا ملے گا اور نہ ہی ململ ملے گی۔

لوٹھتوں می وست کورا اسے پشاکیں مڑدمانی
تجھے کورے کپڑے کی پوشاک دی جائے گی۔
ایر کھنوں کھٹا بھے دیما سر شمالیں عاجزانی
جنازے کی چارپائی شمالی جانب سر کر کے رکھی جائے گی
کھے اِمامے امم کھوشتی صَف وُنیا مڑدمانی
امام آگے اور باقی لوگ صف باندھے پیچھے کھڑے ہونگے
گل تکبیراں گشا نارب تعریفاں زبانی
سَب تکبیریں کہیں گے اُور اللہ کی تعریف کریں گے۔
نیں برعنی تیں ہموازا کہ سِندانی ڈاڈا پھشانی
اَب اس جگہ تجھے لے جائینگے جہاں تیرے باپ دادا گئے
تنگ دفیں گورے تیار بی ہندا اتِشیں انکھوانی
بہت تنگ منہ کی قبر ہو گی جو تیرے لئے تنہائی کا گھر ہے
شوز چھروں لوغ چنڈانیں جشیش چنتا دلائی۔
اس کے بعد تیرے دوست بے فکر ہو کر گھر لوٹیں گے
کھاتکوں فرشتغ شہ پھنڈے گرز کو نو نہتیں جنڑانی
اَب فرشتے گرزیں لے کر حاضر ہوں گے
پچھغوں سخنیں سوالاں دے جوابے تھوز وانی
سخت سوال کریں گے اور تم زبانی جواب دو گے
تھیں حنداکھیں، کھیئی نبی تھئی، تجھے کسے دین جھانی

تیرا خدا کون ہے، کون تیرا نبی تھا، دنیا میں کس دین پر تھا.
ار کھسے نیکیں عملے تھئیَ جوابوں صَادقانی
اگر تو نیک عمل والا ہے تو صحیح جواب دے گا
شے خدا ہیں لاشریکیں پاک مولا رحمتانی
میرا خدا لاشریک ہے. پاک مولا رحمت والا ہے.
محمد کلمہ پڑھنوں سیّدیں کل مرسلانی
محمد کا کلمہ گو ہوں جو کل نبیوں کے سردار ہیں
فرشتغاں داتو تسلی دخت گو اِستو تھڑاستغانی
فرشتے تجھے تسلی دیں گے کہ تجھے کوئی خوف نہیں
جنتے موری چھڑابی کھیئث خوشبو عطرانی
جنت کا دروازہ کھول دیا جائیگا عطر کی خوشبو آئے گی .
دفس نیں تھو گوامنا قیامتیں بہشتی مڑانی .
اَمن کے ساتھ سو جا . قیامت میں تیرے لیئے جنت ہے
گو اِستغو لحظے کھسائیں ٹونک صورسے وَ جغانی .
ایک لمحے کی طرح یہ وقت گذر جائیگا اَور صور پھونکا جائے گا.
تھو کھڑ دبی شے پیشکی بی آخرانی .
اَب قبر سے اٹھو پیش ہونیکا وقت آگیا ہے.
دث خدا تخت ء چڑھنسو مالکیں کل شہانی
اَب اللہ جو کل بادشاہوں کا مالک ہے تخت پر جلوہ افروز ہوگا

غزل

دَوست مَیں بھل اُسے گلابی باز سوہنا ایں شہے
میرا دوست گلاب کا پھول بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین چیز ہے
مرگ سہدا ایں عجبیں جنّتے حورے گشتے
عجیب خوش گو ہے اور جنت کی حور معلوم ہوتا ہے
مٹھ لعل چھئی نہ لبھی چہارسوں ڈیہہ ہر گرے
میرے لعل جیسا کہیں نہیں ملتا ہر طرف دیکھ چکا ہوں
چھم نورانی بلاغاں زالوریں زلفاں سرے
آنکھیں نورانی اور ریشمی و نرم زلفیں اسکے سُر پر ہیں
کاغذیں رکھاں ملوکھے وریں وتاناں دُفے
کاغذ جیسے پتلے ہونٹ اور موتیوں جیسے دانت اسکے منہ میں ہیں
تھَیں دیم شیشائی بلاغیں ماہ ڈولا بھکنے
تیرا چہرہ چاند کی طرح دمکتا اور شیشے کی طرح چمکتا ہے
عاشقاں تھیں گام چھکا ٹور بالانی کرے
مَیں تیری چال پر عاشق ہوں جس سے تو اڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے
تھیں کھندغاں کاری کھساغاں دل کو گالواراں بڑھغے
تیرے بولنے اور مسکرانے نے مجھے زخمی کر دیا ہے

روح باندلغیں ملوکھے جان ماں نیراں بھُٹے
روح تیرے قبضے میں ہے اور میری جان آگ میں جل رہی ہے
تھیں خلق گالوار لاجوابوں تھو دشمنان سجن کھنے
تیری خلیق اور لاجواب گفتار دشمنوں کو بھی دوست بنادیتی ہے
ریشمیں جندے لڑوخے جو پھل بنتیں جنتے
تو جنّت کے پھولوں کی طرح نرم اور ملائم ہے
کھو نتری ڈولیں اناۓ تھری تھی مانے نتریۓ
کبوتر جیسے خوبصورت دوست اور میں کیا مثال دوں
دل بھرڑتھے، وہشیں زوانائی بیا مجھے نزی نوۓ
میٹھی باتوں سے میرا دل قابو کرنیوالے۔ میرے قریب آ
لعل بٹیر شار نجاں تھو لغاں جان ماں ڈکھاں جسے
اے دلربا تیری جدائی نے مجھے مصیبت میں ڈال رکھا ہے
ماں ڈوبیرا اسٹھ وہسا تیر گو دیداں جھتے
میرے سینے میں تیری نگاہوں کے تیر لگے ہیں
رنج شتھاہی ٹلسوں ہیرے دَستے دیۓ
چھ ماہ کیلئے میرے دکھ ٹل جائیں گے اگر تو ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔
لعل تھیئ مونجھاں زہیراں باز شوقیں گندے غے
لال۔ تیرے ہجر سے مغموم ہوں ملاقات کا بہت شوق ہے

بی نصیبا بیتیں روشے وخت بے مے نند غے
میری قسمت میں کوئی ایسا دن آئے جب ہم مل بیٹھیں

دوست تھیں وہیں زوانے چتے زیراں گھند غے
محبوب تیرے میٹھے بول سے میں ذرا لطف اٹھا لوں

یاد تھیغیں ہر دمے فرق نیئں روش شفے
تیری یاد ہر وقت ہے دن رات کا کوئی فرق نہیں،

بیامئ بوٹا کمائی لعل وانڑا اتر و نگلے۔
آ میرے سرو۔ ہم مل کر دوڑیں اور کھیلیں۔

ہیرے رکھاں مناں دے لحظہ ڈکھا سہے
اپنے شیریں لبوں کو ایک لحظے کیلئے مجھے دیکر تکلیف اٹھاؤ

بے بریں ٹھالی

محمد انور بلوچ شیدا

تھوے ڈکھانی کھناں حالا
ماختوں پردیسی وطن والا
اُرماں تھوی براساں تھو کنے وھیانا
عاجزیں روحاماں جنوں تالا
نی کجلو صفتانی دیاں حالا
دیا کھنے محتغیں جہاں فیلاں
میغ وتھئ یاری بیبغیں سالاں
گگند نواں روشے تھراتھمتے لالاں
اُرماں کھسے کارے تھومناں گشتیں
جھٹ جیا ہنخانے ہر تلے گستیں
گرمئ حالا ارتھئ دلا شکیں
وزتاں بلاے ہیرے ڈوبراڈکھیں
کجلو تھئ عنیں نے وزتے تھیکاں
تالنڑے صِفتاں مئ زواں مالی
نوکراں پاکے دست زیا دانی

لشکیں ووستامئ تھوغیں ہالا
برسلاماں دے ہدے خانا
مدت میوماں گفتغاں بعالا
بیبغاں شیدا پہ بازغیں زالا
بیغاں پیدا پاں تھوی دِیلاں
منٹی چاکر قولیں ماں تھرانیلاں
کجنڑی ڈہاں کٹغاں تالاں
کنند تو گشتی گھبرد مستیں
حلق لیئے چہارے سرابِستیں
تھونام مئ راجانی سخی لبستیں
مے نیا غاسی جلیں قرآن سیکھاں
پاگلاں روحاماں دِیاں ٹھیکاں
قصواں بلاے نواں شمد سیکاں
قدرت ربّ درشک سروانی
شیفغیں پھونزیں چھم کفوتانی

گوزیں دتھاں دیم گیسانی
چھوٹوے دلیں ظلم نازانی
سینغے دیما گل آنارانی !!
منڈڑا ویس ورشک درانی
یوسفے ثانی اَسے جہانانی
صحتاں جیانیں کل مریضانی
نشتعیں کھوہا دوست نانانی
دفتر لاہورا مزیں شانی
کارسرکارے ہر تعمیلانی
پولغی ڈیہا اٹیمے دانی
وسغاں چیند چی سوارانی

کاغذیں رکھیں زلف لمبانی
ململیں جبراں جرغیں کانی
زیب داجزی پھل گلابانی
صورتا تھئی غاحد کمالانی
کھوہے شیری حور نورانی
افسرا بیسا کل طبیانی
ماداخلوں پردیسیں وطنانی
مے سنے پابندی حکمانی
محکمہ سروے کل دہاتانی
تھتھراں ڈیہاں ما ملنگانی
نئی سغادائیں ماں چاندیے ثانی

دستانۂ بلوچی

محمد انور بلوچ شیدا

محن پو لا مخز حالاں مناں کھشتا دوست دیدارا
چندی مرضِ حائل بوں فقط یہ تھئی بدن پارا
برو بادِ صبا جلدی ضروری کند سہدارا ! !
گوئیشں افسوسیں کہ تھو خوشے پو لے کھاں چہ بمارا
مریضے آخری ساہیں بیا شوندے وسی دیدارا
ٹلوں تھئی مرض تھئی چھنڈے لواں ساہی بئی خوارا
مئی دوستے حسن بے مثلیں چھو کھرغا چمکغوں تارا
چہ مئی چھماں ذلیلوں کل مناں از حد دیاں خارا
اگر صیاد ظالم بی رہا بے چون و بے چارا
انورؔ تھو گنو خئے قلمے وار رفتا را
سناں حرفاں شکستہ دل جہاں گرڈیں کغی قہرا
گرے آں گھائیں الناں چھونیداں لوز قطارا
مناڈ سیں کہ کھے سیریں وسی محبوب پچارا
گڑدیں شف ماں بیداراں نئے منا دہو یا پہرا
مئی دل گاہے چھونا خوشیں رونق بیاں بازارا

منیٰ رب آں روش خود گھاری رواں گنداں وفادارا
مرلیفیہ گند پو لاکھاں بیا منیٰ عشق گھو ارا
منیٰ تنگیں دل معشوقیں رونق باں تھئیٰ نظارا
بدن بیا منیٰ شعلہ زن چھو آسا در کھنے دارا
قریب المرگ دور خاں بیا صحت منیٰ مرضانی
تھئیٰ رنجاں بیغاں بے تاب جوابے دے منیٰ عرضانی
لواں روشئے تھرا آہے مڑی تنگیں غریبانی
بیا خیراتی تھرا گنداں تھرا گلیں منیٰ آنہانی
تھئیٰ رفتارا تھئیٰ گفتارا تھئیٰ انجیں ٹیم گامانی !!
اگر عزیب موسیناں تھو لائق شئے انعامانی
منیٰ دوستایہ منگاہے گند لیکھو باں ھزارانی
نھیے اگھر گراں بیغے مناں غرضے تھو درمانی
جانی منیٰ دلے پارا حکیمے کل حکیمانی
چھو بنداں لوز قطارا بیا منیٰ مرگ ناماتی
مناں چہ ہر کھسا دو ستے ہوشیں حالِ ایمانی
شمشتا مارہ تھئیٰ عشقا ہمدردی وثیغانی
چہ تھئیٰ حُسنا چہ تھئیٰ رنگا اسے فریادیں قلمانی
عزانا آشنا ہے تو تھرا بوئیں چمنانی
سوا اشتو تارہ یکیں تھو مہتا بے وطنانی

دستانہ بلوچی

محمد انور بلوچ شیدا

نبھے منیٔ دوست مغروریں کھذیں بیساں منیٔ پیغامیں
نے حالے کھتے نے ولدلائے منا ہچو زیار تھا مانیں
ماں اشتا آں بیزاراں منیٔ طالب اُدر جو یانیں
اے احمق دسی رائے تھک نے سرتھیٔ دوست شیانیں
ماں حیراناں سخے متا عزور اکھر نبھے مانیں
زمیں فرشیں آں بے ترسیں پھندا ظاہر سے انجانیں
جہاں شئے چشم بینا ہو تو ہر طرفِ گلستانیں
ہر چھنڈا نظر گنداں عالم لوز تا بانیں
چہ منیٔ چماں نگاہ گنداں ہر پھلا خزا مانیں
جہاں گرڈ دیں سکدو شیں منیٔ تنگیں پریشانیں
بلبلِ عشق تارک سوں نی ہر مُرغے غزل خوانیں
زمانہ رنگ بدلتو قدر ولالی بے شانیں
کجا آں شان پکڑ تھو افو سے زور گھسانیں

اخیریں چھک شاہانی شے اولاد غلامانیں
اَے آنوَر دلا تھواسوچ عشقے پوائنٹ کامانیں
اِنساناں حیا اشتوفی ہرچیزے گوَ دامانیں

تعارف

جغرافیہ

ایک طائرانہ نظر

رقبہ ۔ ۳,۹۹۷ مربع میل ۲۷,۰۳۷ ,۰۰ ,۷ ۔ ایکڑ

آبادی ۔ ۶۴,۶۹۵ مرد ؛ ۳۵,۶۷۳

عورت ۔ ۲۹,۰۲۲

آبادی زائد از دس سال ۔ ۴۳,۳۷۷ مرد ۔ ۲۴,۷۲۴

عورت ۔ ۱۹,۶۹۳

آبادی فی مربع میل ۔ ۱۶

سالانہ فیصد اضافہ ۔ ۱۰۹

زبان ۔ بلوچی

قومیں ۔ بلوچ (قیصرانی ۔ بزدار ۔ لنڈ ۔ کھوسہ ۔ لغاری ۔
گورچانی ۔ دریشک ۔ مزاری)

اقتصادیات ۔ کثرت داشت مال مویشی ، زراعت ،
کھارسازی ، پیش کی مصنوعات ، معدنیات
خورد و مزدوری ، سنگتراشی ، دری وقالین بافی۔

اہم فصلات ۔ جوار ، گندم ، باجرہ

سڑکیں ۔ ایک سڑک پختہ ، ڈیرہ تا بواٹہ ، باقی کچے راستے
بھی ہیں۔

ڈاک خانے ۔ بارتھی ، کھر ، بچگلا

تار گھر ۔ کھر

وائرلیس سٹیشن ۔ بارتھی ، فورٹ منرو ، بغل چور

مال شماری ۔ کل ۔ ۲،۸۱،۹۵۵ ۔ گائے بیل ۔ ۳۱،۸۰۳

بھینس ۔ x ، بھیڑیں ۱،۶۷،۶۲۱ ۔

بکریاں ۔ ۷۸،۸۳۱ ۔ گھوڑے ۔ ۴۳۶

گدھے ۔ ۲،۵۲۲ ۔ اونٹ ۴،۳۰۶

ہائی سکول ۔ ۴

مڈل سکول ۔ ۷

پرائمری سکول مردانہ ۔ ۱۳۱ ۔ زنانہ ۔ ۴۱

ڈسپنسریاں ۔ ۴

بی ۔ ایم ۔ پی پوسٹ ۔ ۳۱

یونین کونسلیں ۔ ۶

قانون گو ۔ منظور شدہ ۔ ۷ متعینہ ۔ ۱

پٹواری ۔ منظور شدہ ۔ ۵۰ ۔ متعینہ ۔ ۱۲

نائب تحصیلدار ۔ ۳

تحصیلدار ۔ ۱ ڈویلپمنٹ آفیسر ۔ ۱

دیہات ۔ ۲۷۶ سیکرٹری یونین کونسل ۔ ۶

محلِّ وقوع ۔ فطری وضع قطع

موجودہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان، ضلع ڈیرہ غازیخاں کے مغرب، اضلاع لورالائی، سبّی کے مشرق، ضلع جیکب آباد کے شمال اور جنوبی وزیرستان کے جنوب میں ۳،۹۹۷ مربع میل یعنی ۷،۰۰،۰۲۷ ایکڑ رقبہ پر مشتمل کوہ سلیمان کی کچھ خشک، جھلسی ہوئی اور ناہموار پہاڑیوں کا سلسلہ جہاں رود کوہیوں کے عمل سے بے شمار جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ٹوٹے بکھرے پڑے ہیں بلوچ قبائلی علاقہ ہے جو اب علاقہ غیر مشمولہ کہلاتا ہے۔

اس کے جو خدّوخال نظر آتے ہیں رود کوہیوں ہی کے مرہونِ منّت ہیں۔ انہی ندیوں نے اس علاقہ کیلئے آمدورفت کے راستے، چھوٹے بڑے میدان اور زراعت کیلئے چھوٹی بڑی کیاریاں مہیا کی ہیں اور ضلع ڈیرہ غازی خاں کے علاقہ کچھاد کی زندگی اور موت انہی رود کوہیوں سے وابستہ ہے۔

ندی نالے

اس علاقہ میں تین بڑے نالے ہیں جو بارش ہونے پر

دریا کہے جا سکتے ہیں ۔ یہ مغرب سے مشرق کو چھوٹے چھوٹے نالوں کی مدد سے دریا بن جاتے ہیں ۔

۱۔ وہوا ۔ جو سانگھڑ کے شمال کے علاقہ جات کو سیراب کرتا ہے ۔

۲۔ سانگھڑ ۔ موضع منگروٹھا سے میدان میں آتا ہے اور تحصیل تونسہ کو سیراب کرتا ہے ۔

۳۔ کاہا ۔ جو ہڑنڈ کے قریب میدان میں داخل ہوتا ہے اور جام پور تحصیل کو سیراب کرتا ہے ۔

اِن کے علاوہ مندرجہ ذیل نالے قابلِ ذکر ہیں ۔

لتھڑا ، مٹھوان ، باٹھی ، کنواں ، سنگھڑ ، جھوہی ، سوری لُنڈ ، بلیب ، سوری کھوسہ ، وڈور ، دلانہ ، سکوہ ، سخی سرور ، مٹھاون ، راکھی ، چوٹی ، کھوسڑو ، گھٹی ، چھپر ، بھگاڑی ، زنگی ، چھید کی اور گڈو ۔

آب و ہوا ۔

ستمبر سے اپریل تک ٹھنڈی اور جانفزا اور گرمیوں میں خوشگوار آب و ہوا ہے ۔ فورٹ منرو میں جون میں رات کا درجۂ حرارت ۷۰ اور دن کو ۸۰ فارن ہیٹ ہوتا ہے ۔ عام طور پر بارش کم ہوتی ہے ۔ زراعت کے لیئے محدود اور تھوڑی کیاریاں

ہیں ۔ بالعموم سبزہ سے محروم چٹانیں اور پہاڑیاں ہیں۔

نباتات

پیش ۔ ایک جھاڑی جس کے پتے کھجور کے پتوں کی طرح مگر زیادہ ملائم اور مضبوط ہوتے ہیں ۔ خودرو اگتی ہے اس کے پتوں سے چٹائیاں ، خیمے ، رسیاں اور جوتیاں بنائی جاتی ہیں ۔

ان کے علاوہ زیتون ، ببول ، جنڈ ، بیر ، پیلو ، کٹو ، پھلاہی ، کھجور اور شیشم کے درخت بھی پائے جاتے ہیں

پرندے

سیاہ اور بھورے تیتر ، چکور ، بٹیر ، کبوتر ، فاختہ ، کوا ، چیل اور گدھ وغیرہ ۔

جنگلات

تمن لغاری میں ۴۰۰ ایکڑ اور تمن گورچانی میں ۱۰۰ ایکڑ رقبہ پر محکمہ جنگلات شجر کاری کرتا ہے۔

آبپاشی

چاہات ، کالا پانی (جو چشموں سے بہتا ہے) لڑا پانی یا بارشی پانی

زراعت

یہاں پر جوار ، باجرہ اور گندم کی اجناس ہوتی ہیں ۔

حیوانات

سال ۱۹۷۰ء کی مال شماری کے مطابق مویشیوں کی کل تعداد ۲،۸۱،۹۵۵ ہے جس میں گائے بیل ۳۱۸۰۳ بھینس کوئی نہیں ۔ بھیڑیں ۱،۶۷،۶۲۱ بکریاں ۷۸،۸۳۱ گھوڑے ۴۳۶ ، گدھے ۲،۵۲۲ اور اونٹ ۴،۳۰۶ ہیں ۔

اس علاقہ کی قیمتی جائیداد یہی جانور ہیں مگر ان کے علاج معالجے اور انسدادی تدابیر کی طرف توجہ مطلوب ہے ۔ چند شفاخانے ہیں مگر جہاں راستے بھی نہ ہوں اور کئی میلوں کے لیئے

ایک ڈسپنسری ہو اور اس میں بھی ادویات کم اور عملہ غیر تربیت یافتہ ہو تو اس سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

ذرائع آمدورفت

ایک پختہ سڑک ڈیرہ سے بواٹہ تک براستہ کھر اور فورٹ منرو ہے۔ اس کے علاوہ صرف پگڈنڈیاں ہیں۔ کوئی قابلِ ذکر سڑک تعمیر نہیں ہے اور راب سخی سرور سے بغل چور تک ۲۵ میل لمبی سڑک اور اسی طرح کنواں تا دوڈک اور روڑو بھی ایک سڑک زیرِ تیاری ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع آمدورفت گھوڑے، گدھے اور اونٹ ہیں۔ مگر اونٹ پہاڑی نشیب و فراز میں کام نہیں دیتے۔

۲۔ تاریخ و ثقافت

یہ علاقہ ۷۱۱ء سے قبل تک راجہ داہر والیئے بھکر اور بعد ازاں ۷۵۰ء تک عرب حکمرانوں کے زیرِ تسلط رہا۔ اس کے بعد سُمرا خاندان اور پھر غزنوی، غوری، خلجی اور تغلق اس علاقہ کے حکمران رہے ۱۳۹۸ء میں امیر تیمور کے حملہ کے بعد طوائف الملوکی پھیل گئی اور قبائل آزاد ہو گئے۔ مگر اس علاقہ میں کسی کی مستقل رہائش نہ تھی

خانہ بدوش افغان قبائل خاص موسموں میں آتے اور چلے جاتے رہے۔ موجودہ قبائل بلوچ رند خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد حلب علاقہ ملک شام سے بلوچستان میں آکر آباد ہوئے۔ اور علاقہ ہذا کے عین ملحق موجودہ ضلع سبی کو اپنا مستقل وطن قرار دیا۔ اتفاق سے ان کی بلوچ خاندان کی ایک دوسری شاخ لاشار سے جنگ چھڑ گئی۔ جو تیس سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ ۱۴۸۶ء میں بلوچ رند خاندان کی فتح پر منتج ہو کر ختم ہو گئی۔

رند سردار میر چاکر اعظم نے اس بے آب و گیاہ علاقہ کو چھوڑ کر میدان کی طرف آباد ہونے کا ارادہ کیا۔ اور اپنی ماہرانہ حکمتِ عملی اور زورِ بازو سے بڑھتا گیا۔ قسمت نے اس کی یاوری اس طرح کی کہ ملتان کے عربی علاقہ کے حکمران ناہڑ، میرانی اور لنگاہ آپس میں جنگ و جدل کے باعث انتہائی کمزور ہو کر بابر کے حملہ ۱۵۲۶ء میں تقریباً ختم ہو گئے اور میر چاکر اعظم ملتان تک آسانی سے قابض ہو گیا۔

موجودہ قبائل بھی اپنے سردار میر چاکر کے ہمرکاب تھے مگر تیس سالہ جنگ رند و لاشار سے اکتائے ہوئے تھے۔ یہ اس کے قافلہ سے جدا ہو کر ایک ایک کر کے راستہ میں آباد ہوتے گئے۔ چنانچہ گورنیش جدِ اعلیٰ خاندان گورچانی علاقہ کھلچاس میں اور کلو، مزار، شاہو، احمدان، اسمٰعیل، بجر، زنگل، جدگان اعلیٰ

ہیں۔ خاندان لغاری موجودہ تمن لغاری ہیں۔ اپنے سردار کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھ رہے۔ موجودہ بارتھی کے قریب ایک گھرانہ کی بکریوں نے بچے جن دیئے اور وہ بھی سردار کا ساتھ دے کر یہیں آباد ہو گئے اور بزدار کہلائے۔ علاقہ کھنمبی میں کھونیغ نامی بلوچ آباد ہو گیا۔ جس کے پسماندگان کھوسہ کہلائے۔ علاقہ سر بھیرا سنغ میں قیصر نامی بلوچ آباد ہو کر قیصرانی خاندان کا مورث کہلایا۔ غرضیکہ مزاری، لُنڈ، دریشک خاندان بھی اسی طرح اپنے سردار کو چھوڑ کر یہیں آباد ہو گئے۔ یہ زمانہ دسویں صدی ہجری اور سولہویں صدی عیسوی کا ابتدا ہے۔ شیر خاں سوری نے بلوچوں کی پیش قدمی روکنے کے لیئے سخت اقدامات کیئے۔ اور ان کو ملتان اور اس کے نواح سے نکال باہر کیا۔ جس سے ان کی ہمدردیاں ہمایوں کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ اور ہمایوں کی واپسی اور بحالی میں بلوچوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اس لیئے خاندان مغلیہ نے علاقہ مشمولہ ہذا کے بلوچوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک روا رکھا۔ احمد شاہ ابدالی کے زمانہ میں بھی گورنر خراسان سے مقرر ہو کر آتے تھے۔ ان کے زمانہ میں بھی یہاں سب اچھا رہا۔ غرضیکہ ابتدائے آبادی سے انگریزی عملداری تک قبائلی طرز کا نظم و نسق بذریعہ سردار قبیلہ ہی چلا آیا اور کسی حکومت نے ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی۔

۱۸۴۹ء میں انگریزی عملدرآمدی شروع ہوئی اور تقسیم ملک یعنی

قیامِ پاکستان تک یہ خاص علاقہ کے نام سے موسوم تھا۔ اور نظم و ضبط براہِ راست گورنر جنرل ہند کے تابع تھا۔ ہر ایک گوت کو تمن کا نام دیا گیا اور متعلقہ علاقہ بھی تمن ہی کہلاتا تھا۔ جس کا سردار تمنّدار کہلاتا تھا۔ جسے مجسٹریٹ درجہ اوّل کے اختیارات حاصل تھے۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ تمنّ دار ہی کرتے تھے۔ اور اس عمل کے لیئے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن نافذ تھا۔ آزادی کے بعد تمن داروں کے اختیارات واپس لے کر سال ۱۹۵۰ء میں پولیٹیکل نائب تحصیلدار اور ایک پولیٹیکل تحصیلدار برائے انتظام و انصاف تعینات کیئے گئے۔

خاص علاقہ کو ایکسکلوڈڈ ایریا (علاقہ غیر مشمولہ) ضلع ڈیرہ غازیخاں کا نام دیا گیا۔ مگر انتظام میں کوئی خاص تبدیلی نہ ہوئی۔ جرگہ کی صدارت تمنّدار کی بجائے نائب تحصیلدار کے سپرد ہوئی۔ جس کا مقصد شخصی اقتدار کا خاتمہ تھا۔ جو تمنّدار کو اس کی گوت پر حاصل تھا۔ اس عمل سے یہاں کے عوام میں آزادی اور مساوات کا کچھ احساس بھی ہوا۔

قومیں گوتیں

اس علاقہ میں ایک ہی قوم بلوچ رند آباد اور ان کی مندرجہ ذیل گوتیں ہیں۔

نمبر شمار	گوت	رقبہ (ایکڑ)	مردم شماری
۱۔	بزدار	۳۵,۰۲۹	۲۸,۲۴۱
۲۔	قیصرانی	۲,۷۹,۶۲۲	۱۲,۰۶۵
۳۔	لُنڈ	۳۳,۱۲۶	۱,۰۰۰
۴۔	کھوسہ	۳۷,۷۹۱	۱,۲۸۱
۵۔	لغاری	۲,۹۹,۹۷۲	۱۱,۴۷۷
۶۔	گورچانی	۸,۸۹۵	۷,۴۴۲
۷۔	دریشک		۱,۴۱۸
۸۔	مزاری	۵,۶۰۲	۱,۷۷۱

خوراک

عام غریب لوگوں کی خوراک جوار، باجرہ اور گیہوں کی روٹی ہے۔ جو لسی، گڑ یا سالن سے کھائی جاتی ہے۔ گوشت گھی، مکھن

پسندیدہ خوراک ہے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ گوشت ضرور کھاتے ہیں۔
جنگلی جانور مثلاً پہاڑی بکرا، دنبہ، ہرن وغیرہ شکار
کرتے ہیں۔ جنکا گوشت کھاتے ہیں۔ "سجی" یعنی کم عمر دنبہ کا
گوشت آگ پر بھون کر کھانا خاص تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے۔
عام طور پر لوگ "پندسے" بنا کر یہ گوشت سردیوں میں مہینوں
تک کھاتے ہیں۔ "پندسے یوں بنتے ہیں کہ اس مقصد کے لیئے
دنبے کے بچے" ماہ پھاگن چیت میں نامزد کر دیئے جاتے ہیں۔
اور ان کی خاص طور پر پرورش کر کے ان کو موٹا کیا جاتا ہے۔
سردیوں کی ابتدا یعنی ماہ مگھر میں دنبہ ذبح کر کے ایک ترکیب
کے ساتھ گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے نمک میں بسا دیا جاتا ہے
چند روز نمک میں رہ کر گوشت کا خون اور پانی خارج ہو جاتا ہے پھر
اس سے نمک جھاڑ کر مصالحہ لگا کر کسی چٹائی میں باندھ کر اونچا لٹکا
دیتے ہیں۔

جب مہمان آئے یا ضرورت محسوس ہو تو ضرورت کے مطابق
گوشت کاٹ کر ابال کر کھا لیتے ہیں۔ ابلنے پر جو پانی خرچ آتا ہے
اسے گوشت نکالنے کے بعد روٹیوں میں چوری کے طور پر ملا کر کھاتے
ہیں۔ یہ گوشت دو قسم کا ہوتا ہے یعنی عام گوشت اور سفید
(دنبے کی چکی کا) گوشت۔ گرمیاں آنے تک یہ گوشت خشک
اصلی حالت پر رہتا ہے۔ اور لوگ کھاتے ہیں۔

سفر کے دوران آٹا گوندھ کر پتھروں کے گرد لپیٹ کر آگ پر پکا لیتے ہیں۔

پانی یہاں کے لوگوں کا اہم مسئلہ ہے۔ چشمے کا پانی دُور دور سے اونٹوں، گدھوں پر لاد کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ یا پھر بارشی پانی تالابوں میں ذخیرہ کر کے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب پانی نہ رہے تو نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

لباس

بلوچ مرد سفید بڑی شلوار، کھلا کُرتا اور پگڑی باندھتے ہیں عورتیں بھی سفید ہی رنگ کی کھلی شلوار، کھلا کُرتا اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں اس لباس پر بھی تہذیبِ نو کا اثر ہو کر کچھ قمیضیں اور چھوٹے پٹکے وغیرہ مروّج ہو رہے ہیں اور بڑی ربڑ سول والی چپلیاں پہنی جاتی ہیں۔ تقریبات پر کُرتے جن پر کڑھائی سینہ و کف پر ہوتی ہے بھی پہنے جاتے ہیں داڑھی اور مونچھ فطری طور پر رکھنے کے عادی ہیں اور اس طرح قرونِ اولےٰ کے مسلمانوں سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر اَب بعض لوگ بابو بن رہے ہیں سردیوں اُور گرمیوں کا لباس ایک ہی ہے البتہ سردیوں میں ایک گرم چادر مزید لی جاتی ہے۔

زیورات

بالعموم چاندی کی بالیاں، ہستی، کنگن، چوڑیاں اور مندری چھلّے استعمال ہوتے ہیں۔ اب بعض گھروں میں سونے کے زیورات جدید فیشن کے مطابق پہنے جاتے ہیں۔

رہائش

یہ لوگ فطری طور پر پکھی واس ہیں۔ غاروں، جھونپڑیوں اور درختوں کے نیچے رہ کر گذر بسر کرلینا ان کی قدیم عادت ہے۔ پیش کے پتوں سے چٹائی کا خیمہ جسے "تورا" کہا جاتا ہے بنا کر گھر بنا لیتے ہیں۔ مال مویشی کے لیئے جہاں آب وگیاہ ملے وہیں ایسے تورے بنا کر گھر بنا لیتے ہیں۔ مال مویشی کو سردی سے بچانے کے لیئے لکڑی اور گھاس کے جھونپڑے بناتے ہیں۔ اب پختہ مکان بھی بہت تعمیر ہو چکے ہیں۔ بیٹھنے اور سونے کے لیئے بھی پیش کی چٹائیاں استعمال ہوتی ہیں۔

ان بلوچوں کے اکثر گھر ایسے ہیں جہاں کوئی چارپائی یا کرسی میز نہیں مل سکتی۔

پیشے

اس علاقہ میں زمین تو سمجھیں کہ ہے ہی نہیں بلکہ پتھر ہیں نشیب و فراز ہیں اِسں لیئے یہاں کا سب سے اہم پیشہ مال مویشی اور بھیڑ بکریاں پالنا ہے۔ کاشت کاری بھی ہوتی ہے۔ پیش کی مصنوعات اَور اس کے پتّے کی برآمد، کھار سَازی، ملتانی مٹی کی برآمد کی جاتی ہے۔ نیز معدنیات کی کھدائی، سَنگتراشی، دری وقالین بافی مزدوری، ملازمت وغیرہ ذرائع گذر بسر ہیں۔

عادات ورواجات

شادی کی تحریک لڑکے کے والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ لڑکی کے وَالدین کی رضامندی پر ابتدًا لڑکی کے گھر جاکر کچھ تحفے بصورت پوشاک اور مندری (انگوٹھی) دیتے ہیں۔ تاریخ شادی کا تعیّن ہوکر بارات کی صورت میں لڑکی کے گھر جاکر مسنون طریقہ پر نکاح ہوتا ہے۔ اور لڑکی بیاہ کر دولہا کے گھر لائی جاتی ہے۔ اس موقع پر گوشت روٹی کا کھانا دیا جاتا ہے۔ شام کو موٹے مال کا گوشت مشترکہ پکا کر مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ آئندہ صبح بیس

آدمیوں کے لیئے ایک دنبہ ایک ٹوپہ چاول اور چار سیر کھانڈ دیتے ہیں۔ اور فی کس ایک بڑی روٹی جو کٹوڑے کے پہیئے کے حجم کے برابر ہوتی ہے دیتے ہیں۔ ہر فرقہ کے آدمی اپنا مال (متذکرہ بالا) خود پکاتے ہیں اور پکی پکائی دیگ گھر والے دیتے ہیں۔ شادی کے انجام پر نیندر جمع ہوتا ہے یعنی کچھ رقم شادی والے کو دی جاتی ہے۔ بعض لوگ نیندر وصول نہیں کرتے۔

اگر کوئی شخص مرجائے تو حسب توفیق وارث مال ذبح کرکے روٹی کھلاتے ہیں۔ یہ روٹی وہی آدمی کھاتے ہیں جو کھدائی قبر اور رسومات کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو یہ کھانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے متوفی کے وارثوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور بعد میں دیگر لوگ کھاتے ہیں۔

زانی مرد اور عورت اگر بدکاری کے وقت قتل ہوجائیں تو کوئی بدلہ، قصاص یا ہرجانہ نہیں ہوتا۔ اگر مرد قتل ہوجائے اور عورت بچ رہے تو ایسی عورت کو کسی دور دراز علاقہ میں بیچ دیتے ہیں۔ اگر عورت ماری جائے اور مرد بچ جائے تو اس سے زر کثیر چٹی کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ اور وہ مرد جرگہ میں آکر معافی مانگتا ہے۔ دوسری صورتوں کے ہر قسم کے قتل کا قصاص لیا جاتا ہے اور ایسا انتقام پشت در پشت چلتا رہتا ہے۔ اگر زر کثیر بطور چٹی دے کر مفاہمت ہوجائے تو معاملہ ٹھنڈا پڑجاتا ہے۔

عقیقہ کا رواج مطابق شرع شریف ہے۔ میّت کی قل خوانی پر بھی مہمانوں کو گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اگر مہمان بارہ یا اس سے زیادہ آجائیں تو میزبان ایک دنبہ یا بکرا ذبح کرکے دیتا ہے گوشت مہمان خود پکاتے ہیں اور روٹی گھر والے پکا کر دیتے ہیں۔

یہ لوگ پہاڑوں میں جہاں راستے نہیں ہیں پیدل بڑی تیزی سے چلتے ہیں۔ گھوڑوں پر سواری بھی کرتے ہیں۔ گدھے اور بیل سے باربرداری کا کام لیتے ہیں۔

چونکہ ان لوگوں کی رہائش اکٹھی نہیں ہوتی اس لیے کھیلوں کا رواج کم ہے۔ البتہ نشانہ بازی اور جھومر وغیرہ ان کے عام کھیل ہیں ان کا ایک مشہور کھیل "بلاڈو" ہے۔ جس میں دس بارہ آدمی اندر لکیر کے اور دس بارہ باہر ہوتے ہیں۔ باہر والے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر والے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح جیت ہار ہوتی ہے

کھیتی باڑی کے لیے زمین بنانا ایک مشکل کام ہے۔ پتھروں کو ہٹا کر اور گدھوں پر دور دور سے مٹی لاد کر لا کر بچھاتے ہیں چھوٹے نالوں کے منہ پر چھاب وغیرہ دے کر بند بناتے ہیں۔ بارشی پانی سے مٹی جمع ہو کر کسی نہ کسی دن کیاری یا کھیت بن جاتی ہے اور قابلِ کاشت ہو جاتی ہے۔

۳۔ اِنتظامیہ

یہ علاقہ بین تابع ضبط صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع ڈیرہ غازیخاں پولیٹیکل اسسٹنٹ کے چارج میں ہے جو اس علاقہ کے کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس ہونے کے ساتھ اعلیٰ عدالت دیوانی وفوجداری ہیں. عدلیہ کے کام میں ان کو تین نائب تحصیلداران اور ایک تحصیلدار بحیثیت صدر جرگہ کام دیتے ہیں۔ مال کے کام میں تحصیلدار، قانونگو اور پٹواری۔ ترقیات میں ڈویلپمنٹ آفیسر جن کے تحت ۲ دیہاتی کارکن اور سیکرٹری اوورسیر وغیرہ اور انتظام بحالی امن وامان و تعمیلات کے کام میں بارڈر ملٹری پولیس کے ایک رسالدار، سات جمعدار، ستائیس دفعدار، دوسو سات سوار، انتالیس پیادہ، آٹھ وائرلیس آپریٹر، ایک آرمور، ایک ٹرک ڈرائیور موجود ہیں۔ یہ علاقہ نو تمن ہائے پر مشتمل ہے۔ یعنی بزدار اول، بزدار دوم، کھوسہ، لُنڈ، لغاری گورچانی، دریشک اور مزاری۔ ۱۹۵۰ء سے قبل بلوچ قبائلی علاقہ کہلاتا تھا۔ پھر اسے پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خاں میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسے علاقہ غیر مشمولہ قرار دیا گیا۔ تاکہ اسے دوسرے علاقہ کے مطابق کیا جاسکے۔

۴ - اہم مقامات

۱۔ فورٹ منرو۔ ایک پہاڑی صحت افزا مقام جو سطح سمندر سے ۶٫۲۰۰ فٹ بلند ہے۔ یہاں باغیچے، خوبصورت بنگلے، دفاتر اور تمنداروں کے رہائشی بنگلے ہیں۔ ڈیرہ غازیخاں سے ۵۴ میل مغرب میں واقع ہے۔ پختہ سڑک ڈیرہ اور لوراڑہ کو جاتی ہے گرمیوں میں موسم ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے۔ درجہ حرارت ۴۰، ۴۵ درجے عام طور پر رہتا ہے۔ بند خلیج اور ترمیوں آبشار تفریحی مقام ہیں۔

۲۔ کھر۔ فورٹ منرو سے تین میل نیچے وادی ہے۔ مزروعہ زمینوں کے درمیان بازار چھوٹا سا قصبہ۔ بی ایم پی پوسٹ۔ ہائی سکول ہیں۔ بنک اور دیگر دفاتر بھی ہیں۔

۳۔ کھرڑ بزدار۔ سکول، بازار۔ وادی پنجاب اور بلوچستان کی سرحد پر ہے۔ آب و ہوا اچھی ہے اور کنوئیں بھی موجود ہیں۔

۴۔ بارتھی۔ تمن بزدار کے وسط میں واقع ایک قصبہ ہے۔ بزدار سردار کے بنگلے ہیں۔ ہائی سکول اور ڈسپنسری ہے۔

۵۔ باٹھی (ڈھوڈک) رود باٹھی کے کنارے آباد ہے۔ مڈل سکول ہے اس موضع میں ڈھوڈوک کے مقام پر تیل اور گیس برآمد ہوئی

ہے۔ جہاں کمپنی کے دفاتر و کارخانے ہیں۔ پانی صحت کے لئے اچھا ہے۔ درہ کنواں سے عمدہ پختہ سڑک ڈھوڈوک اور روڈو تعمیر ہوئی ہے۔

۶۔ بغل چور۔ ایٹمی توانائی کے کارخانے اور دفاتر ہیں پختہ سڑک سخی سرور سے ۳۵ میل شمال مغرب کو جاتی ہے جہاں پر یہ مقام واقع ہے۔

کتابت، ضیاء الرحمٰن خوشنویس ساہیوال